

حسنِ معاشرت

مسلمان لڑکیوں کے لیے
گھریلو زندگی، پروش اولاد، خانہ داری اور
حسنِ اخلاق کا سبق دینے والی کتاب

مصنف

محمد و مہ خیر النساء بہتر

(والدہ معظمه حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی)

ناشر

مکتبہ اسلام ۱۴۲۵ھ محمد علی لین گوئن روڈ لکھنؤ

جملہ حقوق محفوظ

۲۳۳ وال ایڈیشن

۱۴۳۳ھ - ۲۰۱۲ء

نام کتاب: حسن معاشرت
مصنف: مخدومہ خیر النساء بہتر
کپوزنگ: نازیہ حامد (ڈالی گنج، لکھنؤ)
طبعات: کاکوڑی آفسٹ پریس، لکھنؤ
قیمت: Rs. 20/-

ناشر



فہرست مرضائیں

| نمبر سلسلہ | عنوان | صفحہ |
|------------|-----------------|------|
| ۱ | پیش لفظ و تعارف | ۹ |
| ۲ | مقدمہ | ۱۳ |
| ۳ | بچپوں سے باتمیں | ۱۵ |

باب اول

| | | |
|---|---------------------------------------|----|
| ۱ | میکیہ | ۱۹ |
| ۲ | والدین کی خدمت اور اطاعت | ۱۹ |
| ۳ | پہلے تعلیم و تربیت کیسے کی جاتی تھی | ۲۱ |
| ۴ | والدین کی اولاد سے بے تو جہی کا نتیجہ | ۲۳ |
| ۵ | شرم و حجاب | ۲۵ |
| ۶ | ناول اور افسانے | ۲۶ |
| ۷ | چھوٹوں سے اُنفت و محبت کا برتاو | ۲۷ |
| ۸ | بھائی بھاونج سے برتاو | ۲۸ |
| ۹ | بڑی بہن کا ادب | ۲۸ |

| نمبر سلسلہ | عنوان | صفحہ |
|------------|-------------------------------------|------|
| ۱ | بाब دوم سرال | ۳۰ |
| ۲ | چند دن بطور مہمان کے | ۳۰ |
| ۳ | ساس نندوں سے بر تاؤ | ۳۰ |
| ۴ | عام سرال والوں سے سلوک | ۳۳ |
| ۵ | پچھا، ماموں، خالہ، پھوپھی | ۳۳ |
| ۶ | شہر کے حقوق | ۳۵ |
| ۷ | شہر کی خدمت | ۳۵ |
| ۸ | شہر کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے | ۳۶ |
| ۹ | عقل و سلیقہ کا تقاضا | ۳۷ |
| ۱۰ | شہر کو خوش کرنے کا آسان طریقہ | ۳۸ |
| ۱ | باب سوم | |
| ۲ | خانہ داری اور اس کے طریقے | ۳۰ |
| ۳ | خانہ داری کے لیے سلیقہ شعاری شرط ہے | ۳۰ |
| ۴ | معاملات خانہ داری | ۳۱ |
| ۵ | خانہ داری کے لیے ضروری سامان | ۳۲ |
| ۵ | ہر وقت کام آنے والی چیزیں | ۳۶ |

| نمبر سلسلہ | عنوان | صفحہ |
|------------|----------------------|------|
| ۶ | بڑنوں کی تعداد | ۳۶ |
| ۷ | جنس رکھنے کی جگہ | ۳۷ |
| ۸ | اور دوسرا لے لوازمات | ۳۸ |
| ۹ | جنس کی تعداد | ۳۹ |
| ۱۰ | انظام | ۴۰ |
| ۱۱ | گھر کی صفائی | ۵۱ |

باب چہارم

| | | |
|---|---------------------------|----|
| ۱ | ترتیبیت اولاد | ۵۲ |
| ۲ | پرورش اولاد کا آسان طریقہ | ۵۵ |
| ۳ | بچوں کی تعلیم | ۵۸ |
| ۴ | بچوں کی نگہداشت | ۵۸ |
| ۵ | لڑکیوں کے پردہ کا خیال | ۶۰ |
| ۶ | دست کاری | ۶۱ |

باب پنجم

| | | |
|---|---------------------|----|
| ۱ | چھوٹے بچوں کا اعلان | ۶۲ |
| ۲ | زچ خانہ کی بیماریاں | ۶۲ |

| نمبر سلسلہ | عنوان | صفحہ |
|------------|---------------|------|
| ۳ | کان کا درد | ۶۲ |
| ۴ | آنکھ کا درد | ۶۲ |
| ۵ | گھٹی | ۶۵ |
| ۶ | پیٹ کا درد | ۶۶ |
| ۷ | پیچ | ۶۶ |
| ۸ | سوکھا | ۶۷ |
| ۹ | پسلی اور سینہ | ۶۷ |
| ۱۰ | قبض | ۶۸ |
| ۱۱ | دست و ق | ۶۹ |
| ۱۲ | پتھری | ۷۰ |

باب ششم

| | | |
|---|---------------------------|----|
| ۱ | مہمان کی خاطر مدارات | ۷۱ |
| ۲ | مہمان کا آنا خوش نصیبی ہے | ۷۱ |
| ۳ | خاطر مدارات | ۷۳ |
| ۴ | ماماؤں سے بر تاؤ | ۷۳ |

۷

| سلسلہ نمبر | عنوان | صفحہ |
|------------------|---|------|
| ۵ | خود کام کرنے کی عادت ڈالو | ۷۳ |
| ۶ | ضروری ہدایات | ۷۶ |
| باب ہفتہم | | |
| ۱ | چند نصیحتیں | ۷۸ |
| ۲ | صلہِ حجی | ۹۷ |
| ۳ | آدمی سے زیادہ خرچ نہ کرو | ۸۰ |
| ۴ | حسن سلوک اور ہارون رشید کا واقعہ | ۸۱ |
| ۵ | حثیت کے مطابق خرچ کرنا عقل مندی ہے | ۸۳ |
| ۶ | معیوب باتیں | ۸۵ |
| باب ہشتم | | |
| ۱ | دعا | ۸۹ |
| ۲ | دعائیں دنیا و آخرت کی خوبیاں مضمراں ہیں | ۸۹ |
| ۳ | دعا کی قبولیت کے طریقے | ۹۱ |
| ۴ | دعا کے ساتھ امید شرط ہے | ۹۱ |
| ۵ | مصیبتوں کا علاج دعائیں ہے | ۹۲ |
| ۶ | دعا کے برکات اور اس کے ثمرات | ۹۳ |

باب نہم

| معمولات | ۹۵ | ۱ |
|--------------------------------------|----|---|
| صح شام کا وظیفہ | ۹۵ | ۲ |
| پانچوں نمازوں کے بعد پڑھنے کی سورتیں | ۹۵ | ۳ |
| حزب الاعظم کا اورد | ۹۶ | ۴ |
| تبیح فاطمہ اور درود شریف | ۹۷ | ۵ |
| سات آیات کریمہ کا اورد | ۹۸ | ۶ |

مناجاتیں

| | | |
|-----|---|---|
| ۱۰۲ | ما یوس تو مجھ کونہ کر مشہور ہے تیرا کرم | ۱ |
| ۱۰۳ | جو مانگا ہے جو مانگیں گے خدا سے ہم وہی لیں گے | ۲ |
| ۱۰۴ | خوشی کے دن ہوں خوشی کی راتیں | ۳ |
| ۱۰۵ | مقبول سب فریاد کر، یارب مری فریاد سن | ۴ |
| ۱۰۶ | سن لے مفہوم دلوں کی بھی دعا ائمین سن لے | ۵ |
| ۱۰۷ | اللہی لا تعزبی | ۶ |
| ۱۰۹ | ہیں محتاج تیرے گدا اور شاہ | ۷ |
| ۱۱۱ | السلام اے بے کسوں کے غم گسار | ۸ |

پیش لفظ و تعارف

مولانا سید ابو الحسن علی حسني ندوی رحمۃ اللہ علیہ
 میرے لیے بڑی مسرت و سعادت کی بات ہے کہ میں اپنی
 والدہ مرحومہ کی مقبول کتاب "حسن معاشرت" کے باہمیں ایڈیشن (۱)
 کے لیے بطور پیش لفظ چند لفظ لکھ رہا ہوں، اولاد کے لیے اپنے والدین
 کی ہر خدمت سعادت ہے لیکن جس کام سے والدین کو زیادہ دلچسپی
 ہو، اس میں ان کا ہاتھ بٹانا اور شریک ہو جانا اور زیادہ سعادت مندی
 کی بات ہے اور اس سے ان کی رضا مندی اور اللہ کے یہاں قبولیت
 کی زیادہ امید کی جاسکتی ہے۔

مجھے اپنے بچپن کی بات یاد ہے کہ والدہ صاحبہ کو بچیوں کی تعلیم

و تربیت، ان کی دینی و اخلاقی اصلاح و ترقی سے کتنی دلچسپی تھی ان کو اس
 کی کتنی فکر رہتی تھی، پھر ان کو لکھنے کا کتنا ذوق تھا اور اس میں وہ کتنی محنت

(۱) احمد لشاب اس کا بیساواں ایڈیشن نئی تابع (کمپیوٹر) سے شائع ہو رہا ہے۔ (جزہ)

کیا کرتی تھیں، ان کو اپنی تصنیفات کتنی عزیز تھیں، اور خاص طور پر اس کتاب ”حسن معاشرت“ کو انہوں نے کتنے ذوق و شوق سے لکھا تھا، اور اللہ نے اس کتاب سے خاندان کے اندر اور خاندان کے باہر کتنا فائدہ ہو نچالا، جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی اور اس کے چھپنے کا بھی کوئی سامان نہ تھا، نہ یہ گھر کا ”مکتبہ اسلام“ تھا، جوان کی کتابیں اب تک تمہر کسی بھی کرچھا پتا ہے، اور نہ وہ ادارے تھے جو ہماری کتابیں بڑے شوق سے چھاپتے اور شائع کرتے ہیں، اس وقت اس کا وہم و مگان بھی نہیں ہوتا تھا، کہ اس کے دسویں یا بارہویں ایڈیشن کی نوبت آئے گی۔

ہندوستان میں بچیوں اور مسلم خواتین کے لیے اچھے سے اچھے لکھنے والے پہلے بھی موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں، اور عمدہ سے عمدہ کتابیں لکھی گئیں اور شائع ہوئیں۔ والدہ صاحبہ نے جو کچھ تصنیفی کام کیا، اپنے شوق، ولی لگن اور توفیق الہی سے کیا، اصلاح تو اصلاح کوئی مشورہ دینے والا اور کوئی ہاتھ بٹانے والا بھی نہیں تھا، ایک ایسے خاندان میں انہوں پرورش پائی جس کی خاص روایات تھیں، اس خاندان میں مردوں میں تو بڑے پایہ کے مصنف گزرے ہیں، عربی اور فارسی میں بھی اور اردو میں بھی، اور ان میں سے بعض کی شہرت

ہندوستان کے حدود سے متجاوز ہو کر دنیا نے اسلام بلکہ دنیا نے علم کے دور دراز گوشوں تک پہنچی، لیکن مستورات اور خواتین میں وہ خاندان کی پہلی اہل قلم اور صاحبِ تصنیف تھیں، تصنیف و تالیف تو بڑی چیز ہے، مضمون لکھنا بھی اس زمانہ کے رواج کے لحاظ سے بڑی ہمت و جرأت اور بڑے کمال و قابلیت کی بات تھی، لیکن اللہ جس سے کام لے اور جس کو علم و قابلیت کی دولت عطا فرمائے، ان کے قلم سے دو نشر کی کتابیں "حسن معاشرت" اور "ذائقہ" اور ایک حمد و نعمت و مناجات کا دلاؤیز اور رقت انگلیز مجموعہ "باب رحمت" کے نام سے نکلا، اور وہ تینوں کتابیں ایسی مقبول ہوئیں کہ بار بار ان کے ایڈیشن نکلے اور ان کا سلسلہ جاری ہے۔

عزیز القدر مولوی سید محمد حمزہ ندوی سلمہ کی بڑی سعادت مندی اور لیاقت کی بات ہے کہ وہ اب اپنے خاندان کے بزرگوں کی کتابیں دوبارہ چھپوار ہے ہیں، اور ان کی عمدہ سے عمدہ طباعت و اشاعت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ابھی انھوں نے ہمیشہ مرحومہ امۃ اللہ تنسیم صاحبہ کی مقبول عالم کتاب "زاویہ" کو بڑی آب و تاب سے چھاپا، اب انھوں نے اپنے خاندان کی بزرگ ہستی اور سر پرست جن کی دعاؤں کا پھل ہم سب کھا رہے ہیں، یعنی میری والدہ محترمہ سیدہ خیر النساء صاحبہ

کی کتاب ”حسن معاشرت“ کو آفٹ سے چھاپنے کا اہتمام کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کتاب کو نہ صرف افراد بلکہ خاندانوں اور کنبوں
کی زندگی بننے اور سنور نے کا ذریعہ بنائے اور اسی سے اس بگڑے
ہوئے معاشرہ کو ”حسن معاشرت“ کا پیغام اور سبق ملے، جس کے
زوال کی رفتار، تہذیب و تہذیب کی ترقی کے ساتھ تیز سے تیز تر ہوتی
جاری ہی ہے، اور خاندان تو خاندان شہر کے شہر اور ملک کے ملک اس
سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سعی جیل کو مشکور و مقبول
بنائے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔

ابو الحسن علی ندوی

۸/رذیقعدہ ۹۹۱ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ أَتُنْبَئُ بِفَضْلِكِ أَفْضَلَ مَا تُوتَّرَ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

مقدمہ

مدت سے یہ خیال تھا کہ کوئی ایسی کتاب لکھوں جس سے وچپی
بھی ہوا اور نصیحت بھی، مگر اب تک یہ خیال پورا نہیں ہوا تھا، دنیا کے
بھگڑے کچھ ایسے درپیش رہے ہے کہ موقع نہ ملا، اس وقت بیٹھے بیٹھے یہ
خیال پیدا ہوا کہ بے کار زندگی کاٹنے سے کیا حاصل، کچھ نہ کچھ تو کرنا
ہی چاہیے۔ کئی روز اسی المجنووں میں دل رہا کہ اگر لڑکیوں کو اپنے پاس
رکھتی ہوں اور کچھ سکھاتی ہوں تو دل اس قابل نہیں اور دماغ بھی ایسا
نہیں رہا۔ یہ بارکس طرح سے اٹھا سکتی ہوں، اختلاف نے بالکل بے کار
کر دیا ہے، خالی بیٹھنے سے وحشت گھیرتی ہے، اگر کچھ دریڑکیوں میں
اور گھر کے بھگڑوں میں طبیعت بھلی بھی تو کیا، کسی کو کچھ فائدہ پہنچا
نہیں، پھر یہ آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل و دماغ جو خدا نے اپنی خاص

عنایت و مہربانی سے عطا کیے ہیں، بے فیض رہ جائیں، افسوس ہے، پھر افسوس ہے۔ کچھ تو ان سے فائدہ پہونچے، آخر کار یہ بات خیال میں آئی کہ اگلا خیال پورا کرنا چاہیے، یہی بہتر ہے اور عدمہ مشغله ہو گا، اس سے انشاء اللہ و رسولوں کو فائدہ پہونچے گا، لیکن اس کے لیے زور قلم بھی چاہیے، اب نہ وہ دل ہے اور نہ دماغ، اور عقل بھی ویسی نہیں رہی اور کچھ قابلیت بھی نہیں، صرف ہمت کر کے خدا کے بھروسہ پر اٹھ بیٹھی اور قلم دوات ہاتھ میں لے کر لکھتا شروع کیا یہ کہہ کر۔

سہارے پر تری امداد کے بیڑا اٹھایا ہے

فلک کا بوجھ اٹھانے پر تلی ہوں نا تو ان ہو کر

خدا سے دعا ہے کہ وہ خاطر خواہ میری خواہش پوری کرے اور اس سے لوگوں کو فائدہ عام پہونچائے اور یہی کتاب مثل استانی کے تمام لڑکیوں کو تعلیم دے، اسی غرض سے میں نے ایک اور بھی کتاب (۱) لکھی ہے تاکہ انتظام خانہ داری کے ساتھ لڑکیوں کو کھانے پکانے کے طریقے معلوم ہوں تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ ہوں اور کفایت شعاراتی کے ساتھ کھانے پینے کا مزرا اٹھا سکیں اور گھروں والوں کو آرام پہونچا سکیں۔

خیر النساء

(۱) یہ کتاب ”ذائقہ“ کے نام سے زیر طبع سے آرستہ ہو کر الحمد للہ بہت مقبول ہوئی (جزہ)

شیخ اللہ از بخاری

بچیوں سے باتیں

اوے بچیو! جس گھر میں تم ابھی آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہو اور پھر جس گھر میں تمحیں جانا ہے اس کا پورا پورا نقشہ میں تمحیں دکھاؤ، اگر تم کچھ بھی عقل رکھتی ہو تو فوراً سمجھ لوگی کہ ہم کہاں ہیں، اور کہاں جائیں گے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں اور کل ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا معاملات درپیش ہیں اور پھر کیا کیا معاملات پیش آئیں گے، آج ہم الحمد للہ اپنے والدین کے زیر سایہ ہیں، ہمیں کوئی برائی نہیں پہنچا سکتا، کل ہم کس کے زیر سایہ ہوں گے، ترش روئی، بد اخلاقی، بد مزاہی، آرام ٹلی، کاہلی، تہا خوری، خود غرضی، ان باتوں پر ہمارے والدین خاک ڈالتے رہتے ہیں، پھر ہماری عیب پوشی کون کرے گا، دوسرا کیوں برداشت کرے گا، اگر تم یہ معاملات خوب سمجھ لوگی تو نہایت آرام سے اپنے والدین کے پاس رہ کر، بخوبی واقفیت حاصل کرلوگی کہ یہاں کیا کرنا چاہیے۔ اور دوسری جگہ کیا کرنا چاہیے۔ اس زندگی کا لطف کن باتعلیٰ سے حاصل ہو سکتا ہے۔

اوے بچیو! میں تمحیں بتاؤں، اگر تم غور سے سنو۔ اگر تم یہ زندگی

آرام و عیش اور لطف کے ساتھ بس رکرنا چاہتی ہو تو جو تھیں میں کروں
اس پر عمل کرو۔ تاکہ تمہاری پوری زندگی آرام سے گزرے۔

پہلے میں تھیں والدین کے یہاں رہنے کا طریقہ بتاؤں گی
جس سے تھیں بہت کچھ تجربہ ہو سکتا ہے، پھر سرال کا طرز، انداز دکھا کر
اس کے برتنے کا طریقہ بتاؤں گی، جس کے باعث تم تمام معاملات
سے واقف ہو جاؤ گی پھر تھیں کوئی تکلیف نہ ہو نچا سکے گا، بلکہ ہر شخص
آرام پہوچانے والا ہو گا۔ تمہارے والدین خوش ہوں گے، تمہارے
اخلاقی ظاہری و باطنی دیکھ کر ان کی آنکھیں مٹھنڈی ہوں گی، تمہارے
شوہر تم سے راضی اور تم پر مہربان رہیں گے اور تمام کتبہ تمہارا ہمدرد اور
ہاتھ بٹانے والا ہو گا، تمہارے بڑوں میں جو اخلاق تھے وہ تھیں حاصل
ہو جائیں گے، تمہارا حسنِ انتظام دیکھ کر ہر شخص خوش ہو گا، ہر ایک تمہاری
عزت کرے گا۔ قصہ مختصر یہ کہ پہلے ماں باپ کا گھر اپنے بل بوتے پر
سن بھالو، اگر یہاں یہ رنگ رہا تو سرال میں بھی یہی رہے گا۔ اب اسی
سلسلہ میں یہ کہتی ہوں کہ سرال میں جاتے ہی سب سے پہلے جو تھیں
کرنا ہے اور جس میں تمہارا امتحان لیا جائے گا وہ انتظامِ خانہ داری
ہے، اور گھر کی صفائی، مہمانوں کی خاطر مدارات، عزیزوں کے ساتھ
حسن سلوک، اور تمہاری دست کاری، اسی لیے سب نے زیادہ ضروری
خانہ داری کا انتظام ہے، اگر یہ نہ آیا تو گویا تم کچھ نہ کر سکیں، ابھی تھیں

بتانے والے اور سکھانے والے بھی موجود ہیں، بل کوئی پرسان حال نہ ہوگا، جو تم پر پڑے گی تمحیں اٹھاؤ گی۔ جب تم آج نہ کرو گی تو بل کچھ نہ بنے گا، اور بنے گا بھی، تو ہزار مصیبیت اٹھا کے، غفلت تمحاری خصلت اور عادت ہو جائے گی تو دوسروں کی نظر میں شرمندہ ہو جاؤ گی، پھر عزت کیسی اور کہاں کی خوشی۔ بچیو! میں یہ خوب بحثی ہوں کہ تم کبھی نہ بھی ٹھیک ہو جاؤ گی جو تمحیں نہیں آتا ہے وہ سب آجائے گا، جو عیب ہیں وہ ہنر پیدا کر لیں گے، کیونکہ یہی دنیا کی مصیبیتیں تمحیں سنواریں گی، مگر کام کا سنورنا، جب تھمارا بھلا چاہنے والے اور اچھی آرزو کرنے والے نہ ہیں گے۔ میری تو یہ خواہش ہے کہ ابھی سے تم وہ خوبیاں اور ہنر پیدا کر لو کہ جو مصیبیتیں آنے والی ہوں ان کی یہ سپر بن جائیں، تمحیں اگر یہ خیال ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے اور موقع پر سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اگرچہ تم نے کبھی کھمار اپنے کپڑے سی لیے، یا کسی کپڑے کی کتری یونٹ کر لی، یا کبھی ایک ہانڈی تیار کر لی، یا کسی کرتے، ٹوپی، بٹوے میں ایک بوٹہ بنا دیا، کلام مجید پڑھ کر صرف دو چار کتابیں لے بھاگیں کہ اس کے مسئلے مسائل اور ان کتابوں کے سبب تالیف سے بھی واقف نہ ہو سیں، یہ بھی قابلیت کوئی قابلیت ہے اگر کوئی کچھ پوچھ بیٹھے تو کبھی تو دیکھتی رہ جاؤ، تمحیں لازم ہے کہ جس کام کی طرف توجہ کرو چاہے وہ کتنا ہی دشوار ہو، آسانی کر کے رکھ دو، کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو، تمحیں مامار کھنے کی ضرورت ہو، نہ اپنے

بزرگوں کی تم محتاج ہو، نہ مردوں کی، ایسی ہوشیاری اور پھرتی سے کام کرو کہ
مرد بھی حیران رہ جائیں، بچوں کی خدمت بھی اچھی طرح سے کرو، ان کی
تیمارداری اور خانہ داری بھی کرتی رہو، یہ نہ کرو کہ ایک ضرورت پڑ جائے تو سو
ضرورتوں کو ہونیٹھو، ہر ایک بات کا خیال رکھو، کبھی کبھی باہر کی خبر لیتی رہو، اگر
یہ سب وصف تم میں موجود ہوں تو بگزی بھی بناسکتی ہو اور اگر کوئی نقصان ہو
جائے گا تو تمہاری عقل اسے ٹھیک کر دے گی، دوست کو دوست سمجھو گی اور
وہ شمن کو شمن، جوبات کہو گی، نہ خود نقصان اٹھاؤ گی نہ دوسروں کو پہنچاؤ گی،
لڑائی جھگڑے تم سے کوسوں دور ہیں گے ہر جگہ تمہاری آؤ بھگت ہو گی،
وہ شمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے، کسی کو تم سے شکایت کا موقع نہ
رہے گا، تمہارے عاقلانہ برداشت کی وجہ سے ہر شخص محبت سے پیش آئے گا،
اگر کوئی خلاف عقل بات بھی ہو جائے گی تو وہ خلاف عقل نہ معلوم ہو گی عقلاً مند
اگر بیوقوفی کی بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ بہتر سمجھی جاتی ہے اور بیوقوف بعض
وقت اچھی بات بھی کہتا ہے تو وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی، بیوقوف اپنی نادانی
سے بنے ہوئے کام بگاڑ دیتا ہے، دوست کو شمن بنالیتا ہے اور عقل مند
وہ شمن کو دوست، جو جو نصیحتیں میں کرچکی ہوں اور کروں گی ان کو سمجھنا اور کرنا
سب عقل پر موقوف ہے، یہ خوب سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت کی کل خوبیاں اسی
عقل سے حاصل ہو سکتی ہیں، عقل و حیا و بڑے جو ہر ہیں۔ شرم بھی وہ چیز
ہے کہ تمام عیبوں سے بچاتی ہے ۔

باب اول

میکہ

والدین کی خدمت و اطاعت

ماں باپ کی خدمت اچھی طرح سے کرو، انھیں کسی وقت تکلیف نہ ہونے پائے، کھانا ان کی خواہش کے موافق اور وقت پر پیش کرو، جو کچھ کہیں اسے دل سے سنوار مانو، اگر وہ کسی کام میں مشغول ہوں تو انھیں پریشان نہ کرو، اور وقت پر جس کھانے اور پینے کے عادی ہوں انھیں لاء کے دو، ایک بات بار بار نہ کہو، ان کے کپڑے وغیرہ ٹھیک رکھو، اگر بد لئے کی ضرورت پڑے تو فوراً لاء کے دو، پانی، صابن، تو لیہ، یہ سب چیزیں مہیا کرو، ان کی جگہ اور بستر صاف رکھو۔ ان سے کبھی تنگ دل نہ ہو، ہر وقت حاضر رہو، کسی وقت اگر خفا ہوں تو آنکھیں چارش کرو، ان کی وہ مختیں جوانہوں نے تمہارے ساتھ کی ہیں یاد رکھو، اپنی دست کاری سے پیدا کر کے ان کی خواہش پوری کرتی رہو، ان پر احسان نہ رکھو، اپنی ضرورتیں خود پوری کرو، ضرورت کا کاغذ، قلم، رنگ، سوتی

تاتاگہ، ریشم وغیرہ سب تمہارے ہاتھوں سے مہیار ہے۔ اگر یہ سب سامان تمہارے پاس موجود ہواں وقت تم سمجھ سکتی ہو ہاں ہمیں بھی کچھ آتا ہے ورنہ تمہارا یہ خیال باطل ہو گا۔ مجھے پہلے یہ چاہیے کہ تمہارے ان عیبوں کی اصلاح کروں جو نظری نہیں بلکہ عارضی ہیں، اگرچہ تمہارے والدین کو ان کی طرف توجہ نہیں ہے مگر ایک روز یہ بے تو جھی رنگ لائے گی، تمہاری بد اخلاقی، لاپرواہی، کاہلی اور خود غرضی، آرام طلبی، بے ادبی، بخل و تملکت، یہی وہ عیوب ہیں جو ابھی تمھیں معلوم نہیں ہوتے، مگر جوں جوں عمر بڑھے گی، تمہارے حق میں زہر ہوتے جائیں گے، پھر نہ تمہارا کوئی عزیز ہو گا، نہ کوئی غیر کوشش کر کے عقل و حیا، یہ دخوبیاں اپنے میں پیدا کرلو، عقل موقع پر راہ بتانے والی ہو گی، شرم تمھیں برے کاموں سے روکے گی، ہر جگہ یہ خوبیاں تمہارا ساتھ دیں گی، تم کبھی ذلیل نہ ہو گی، تمھیں کوئی برانہ کہہ سکے گا۔ جو مشکل تم پر پڑے گی تو اللہ کے حکم سے آسان ہو جائے گی۔ نظام عالم کا دار و مدار عقل پر ہے، جتنی دانای جسے اللہ نے دی ہے اتنی ہی خوبی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، ہر عمارت کا استحکام و انہدام عقل کی کمی بیشی پر موقوف ہے۔

بچیو! اپنے بزرگوں کو دیکھو اور ان سے عقل سیکھو اور ان ہی کی پیروی کرو، شرم و حیا اور عقل و داش سے بہرہ ورہو کر دیں و دنیا کی فلاح و بہبود حاصل کرو، عزت اور فخر و خوبی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو۔

جب تمہارے سامنے کسی قسم کی اچھی یا بُری مثالیں نہ پیش کی جائیں اور گزشتہ زمانہ کے حالات و طرز معاشرت اور تعلیم و تربیت کا پورا نقشہ تھیج کرنے دکھایا جائے اور اُس وقت کی لڑکیوں کے انداز واضح الفاظ میں نہ ظاہر کیے جائیں تم ہر گز نہیں سمجھ سکتیں اور نہ وہ باتیں پیدا کر سکتی ہو جو دراصل انسانیت کے جو ہر ہیں، نہ اپنے عیوبوں کی تلافی کر سکتی ہو، کیا تھیں معلوم ہے کہ کون کون سے جو ہر بے بہا تم سے مفقود ہیں اور کیا کیا مفید باتیں تم سے معدوم ہو رہی ہیں اور کن کن خوبیوں سے تمہاری ذات محروم ہے، تم نہیں جانتیں۔ کیونکہ تم بالکل ناجربہ کار ہو، کسی کی تعلیم و تربیت کا اثر تم پر پڑا ہی نہیں، یہاں تک کہ تھیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ تمہارے والدین تم سے خوش ہیں یا ناخوش۔

پہلے تعلیم و تربیت کیسے کی جاتی تھی

عام قاعدہ پہلے یہ تھا کہ بیباں بچیوں کو بلا کر اپنے پاس بٹھاتیں، ان سے مزہ مزہ کی باتیں کرتیں، نماز کی سورتیں یاد کرتیں اور رفتہ رفتہ احکام شریعت و فرائض اور واجبات دین پر عمل کراتی تھیں، جب اس طرف سے اطمینان ہو جاتا تھا تو حسن معاشرت کی تعلیم دیتی تھیں، ان کی معاشرت پر ہر وقت نظر رکھتی تھیں، اور ان کے ہر انداز کو دیکھتی تھیں، حالانکہ بچپنے سے ان میں کسی قسم کی آزادی و خود غرضی، بے حیائی اور بد اندریشی نہیں پائی جاتی تھی، جیسے اس وقت لڑکیوں میں عام طور پر پائی

جاتی ہے اور اس وقت کی حالت بھی اس وقت سے بہتر اور قابلِطمینان تھی مگر اس پر بھی ان کا تربیت کے موقع پر خیال نہ کیا جاتا تھا، ان کی بے جا خواہش پوری نہ کی جاتی تھی، اس وقت کے تمام خیالات بزرگوں کو پسندیدہ اور کار آمد تھے، لڑکیوں کی مائیں اپنی اپنی لڑکیوں کو اپنے قبضہ میں رکھتی تھیں، ان کی راحت پر اپنی خوشی کو مقدم رکھتی تھیں۔ اور ان کو بچپن ہی سے شرم و چیا کے راستہ پر لگاتی تھیں، ان کی تعلیم و تربیت کا ان پر وہ اثر پڑتا تھا کہ پھر وہ کسی دوسرے کا اثر نہ لے سکتی تھیں، ان کی نشت و برخاست کے لیے ایسی جگہ تجویز کی جاتی تھی جس کے باعث وہ تمام خرابیوں سے محفوظ رہتی تھیں، کبھی بے پردگی نہ ہو سکتی تھی، غیر عورتوں کا بھی وہاں گزرن مشکل تھا، ماں یا بہن جو کسی وقت جاتی تھیں تو کچھ دیر بیٹھ کر انھیں بتا کے انھیں خوف دلاتی تھیں، کہ شادی ہونے پر بھی وہ نہ جاسکتا تھا۔ چیا و شرم کو جو ہر بنا کے دکھاتی تھیں اور بے حیائی کا ایسا اندیشہ پیدا کرتی تھیں جس سے وہ کانپ لٹھتی تھیں، ہر ایک سے پرداہ کرنا، اور پرداہ کرنے کا محل بتاتیں، ان باتوں کا یہ اثر ہوتا کہ ماموں و پچا سے بھی وہ بے تکلف نہ ہوتیں، ایک بچہ بھی گھر میں نہ آ سکتا تھا، رشتہ کے بھائیوں سے بہت احتیاط رکھتیں، بلکہ پرداہ کرایتیں، رشتہ کے لڑکوں کا گھر میں بیٹھنا گوار

خاطر تھا، ضرورت پر بھی ضرورت کا لحاظ نہ کرتی تھیں، سوائے پچا، ماموں، باپ اور حقیقی بھائی کے اپنے ہاتھ کی تحریر کسی اور کونہ دکھاتیں، شرم و حیا کے مشکل سے مشکل معاملہ کو نہایت آسانی و خوبی کے ساتھ طے کرتیں کہ ان کو وقت پر دشواری نہ ہوتی، خلاف شریعت کاموں سے روکتیں اور سوائے قرآن و حدیث اور دینیات کے کسی کتاب پر متوجہ نہ ہونے دیتیں، صاف کہہ دیتیں کہ ان چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں میں وقت صرف کرنا بیکار اور بیچ ہے، نماز روزہ کی تاکید رکھتیں، وظیفہ اور دعا پر مائل کرتیں۔ دینیات کی تمام کتابیں ان کے پاس موجود رہتیں کوئی بات ان سے خلاف دین سرزد نہ ہو سکتی تھی۔ اس وقت اگر علم دین کا چرچا نہ ہوتا تو خدا پرستی، دین داری اور حق شناسی کیونکر ہوتی، عورتیں تو عورتیں مرد بھی فقط کار آمد نفع بخش تعلیم پر توجہ کرتے تھے اور اسی کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے تھے، پھر آئندہ اپنی کوشش و تدبیر میں کامیاب ہو کر نہایت آرام و فراغت سے زندگی بس رکرتے تھے، کسی بات کا اندیشہ اور خوف نہ ہوتا تھا۔ بیچ تو یہ ہے کہ اس وقت اولاد بھی اپنے والدین کی تابعدار و فرمانبردار ہوا کرتی تھی اور یہ فقط ان کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا، یا یہ کہ ان کے نیک اعمال کا اچھا شمرہ تھا۔

والدین کا اپنی اولاد سے بے تو جہی کا نتیجہ

اب حال یہ ہو گیا ہے کہ خود والدین اپنی اولاد کے تابعدار

وناز بردار ہو گئے ہیں۔ یہ ان کو تعلیم نہ دینے کا اثر ہے۔ بجائے تعلیم کے
ان سے بے فکر رہتے ہیں، جو ماں باپ اولاد سے بے فکر ہیں گے،
آپ ملکوم اور ان کو حاکم بنائیں گے، ان کی ہر خواہش پوری کریں گے،
انھیں ہر طرح کا اختیار دیں گے، ان کی خوشی کو اپنی خواہش پر مقدم
رکھیں گے، ان کی دل شکنی منظور نہ کریں گے، بری بھلی باتیں نہ سمجھائیں
گے، پھر وہ کیونکر ان کے قبضہ میں آسکتی ہیں، لامحالہ ان کی یہی حالت
ہوگی جو اس وقت دیکھنے میں آرہی ہے، عام طور سے اس کا نتیجہ یہ ہے
کہ اب لڑکیاں نہایت آزاد اور بے خوف ہو رہی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ
گزرتی ہیں، نہ والدین کا ذر، نہ اللہ کا خوف، نہ دنیا کی شرم، نہ عزت کا
پاس، نہ غیرت کا لحاظ، یہ بھی نہیں جانتیں کہ غیرت اور شرم کہاں کی جاتی
ہے، نہ یہ معلوم کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے، مردوت و محبت کی راہ
بھول گئیں، شرم و حیا کے راستے سے بہک گئیں، اب گویا اتنا خیال نہیں
ہے کہ کس راستے سے ہم آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں نیک صحبوں
سے واقفیت نہیں، تفریح کی شائق، سیرو سیاحت پر قربان، نادلوں پر
صدقة، قصہ کہانیوں پر شار، قرآن و حدیث سے بے زار، اوامر سے غافل،
تو اہی پر مائل، دروغ گو، عیب جو، دوستوں کی دشمن، دشمنوں کی دوست،
تیز مزاج، ملکوں، جس کی جو وضع دیکھی پسند کر لی، جو را چاہی اختیار کر لی،
نہ پابندی شریعت، نہ پاس ادب، نہ اسلامی حمیت، نہ آئندہ کی خبر،

نہ انجام پر نظر، برے بھلے کی پہچان نہیں، اپنے پرائے کی تمیز نہیں، بُرا
بھلا، عزت و ذلت، شریف و رذیل، آقا و غلام، امیر و فقیر، بہار و خزار، رنج
وراحت، شرم و بے حیائی، علم و جہل، اندھیراً جالا، بصارت و بے نگاہی،
عذاب و ثواب، گویا سب سے واسطہ توڑ آئیں۔

شرم و حجاب

اپنے رشتہ کے بھائیوں سے اس طرح پیش آؤ گویا پرده ہی
کرتی ہو، کبھی ان سے آنکھ ملا کے مخاطب نہ ہو، کوئی کام اپنا بنا لیا ہوا
دوسروں کو نہ دکھاؤ، پسی مذاق نہ کرو، اگر وہ چھیڑیں تو تم مخاطب نہ ہو،
بلکہ تمھیں ناگوار ہو، ایسے برتاؤ رکھو، جس سے بظاہر غیریت پائی جائے،
اس کا بھی خیال رکھو کہ تمہارا نام لے کر کوئی زور سے نہ پکارے، کہ
باہر والے تمہارے نام سے واقف ہو جائیں تمھیں خبر بھی نہ ہو، گھر
میں کبھی کو بلا کرنہ بٹھاؤ، ان کا راگ نہ سنو، ہربات میں احتیاط رکھو۔

اپنے کپڑے، اپنی وضع وہ رکھو جو تمھیں زیبا ہو، بوڑھی بن کر شہ
ر ہو، کسی کی بات میں دخل نہ دو، آنکھیں چار کر کے با تیں نہ بناؤ، پان
تمبا کو کھا کر منہ لال نہ کرو، یہ لڑکیوں کو نازیبا ہے، شرم کے ساتھ اٹھو
بیٹھو، سر نہ کھلے، اوھر ادھر دیکھتی نہ چلو، کھلی جگہ نہ بیٹھو، تاک جھانک
سے باز آؤ، بدنامی سے بچتی رہو، نہ تو بد ہونہ بدنام ہو، بری بات جلدی

مشہور ہوتی ہے، کسی لڑکے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو۔

ناؤں اور افسانے

ناؤں نہ دیکھو بلکہ اسے اپنے گھر میں نہ رکھو، نہ کسی کو لانے دو۔
عام طور پر لڑکیاں اب ناؤں کی ایسی عادی ہیں کہ اگر کسی وقت نہ ملے تو
گویا فاقہ ہے، اس سے خدا کے لیے باز رہو، ان کو پڑھ کر اپنے دلوں کو
بے غیرت اور نگاہوں کو آوارہ نہ کرو، اپنی عزت و ناموس اور حرمت کا
پاس رکھو اور ان کی حفاظت کرو، غزل خوانی کا شوق نہ رکھو، یہ بھی تمھیں
زیبا نہیں، اگر تمھیں راگ نکالنے کا شوق ہے تو منا جاتیں ہی کیا کم
ہیں، غزلوں میں وہ الفاظ آتے ہیں جو تمھیں سنتا نہ چاہئیں، نہ یہ کہ تم
خود سناؤ، پہلے زمانہ میں غزل گانے والیاں گھر میں نہیں آنے پاتی تھیں۔

بچیو! ذرا غور کرو کس قدر فرق آگیا ہے، صرف اندازِ خیال
بدل جانے سے تمام باتیں بدل گئیں، نہ وہ رونق رہی ہے نہ وہ دولت
نہ وہ برکت، نہ کسی چیز میں لذت نہ باتوں میں لطف، نہ کپڑے میں
زینت، نہ بچوں میں بچپن، نہ بوڑھوں میں دانائی غرض کہ اب عالم ہی
نیا ہے اور دنیا ہی دوسری ہے، بجائے شرم و حیا کے اب بے حیائی ہے،
گھروں میں گندے اور عربیاں لٹڑ پچر کی ریل پیل ہے جن سے بد اخلاقی
اور بے حیائی کی دبا پھوٹ رہی ہے اور بجائے اتباع سنت کے

دنیاداری ہے، بجائے اطمینان و خوشی کے فکر و پریشانی ہے، جو آسودہ حال برسوں مہماںوں کو کھلاتے تھے، وہ اچھے سے اچھے گھر آج اپنے لیے پریشان ہیں، نہ وہ دن ہیں نہ وہ راتیں، نہ وہ صورتیں ہیں، نہ وہ سیرتیں، نہ وہ دل ہیں نہ وہ ہستیں، نہ وہ دل چھپی کے سامان نہ دل لگی، اگر کبھی دیکھیے بھی تو خواب پریشان، غرضکہ ہر جگہ سے اُف اُف کی صدا آرہی ہے، یہ سب بد خیالی کا شرہ ہے جیسی روح و یہ فرشتے، افسوس صد افسوس وہ باتیں آج خواب ہیں، اور اگر تم نے میری اس کتاب پر غور کیا تو یہاں میں یہ کہہ دوں کہ شرم فقط یہی نہیں کہ تم پر دہ میں بیٹھ گئیں پر دہ ہو گیا، شرم یہ بھی ہے کہ کسی سے فرمائش نہ کرو اس سے آدمی شرمند ہو جاتا ہے چاہے کتنا ہی پیارا ہو، غیرت بڑی چیز ہے۔

چھوٹوں سے محبت والفت کا برتاو

تم اس طرح رہو کہ تم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہر دعے یز رہو۔ اور بھائی بھاونج تم سے خوش رہیں، بھتیجی بھتیجے تمہاری محبت کا دم بھرنے لگیں، تمہارے برتاو سے سب خوش رہیں، غیرت و شرم یہ بھی ہے کہ اپنوں کو بری حالت میں نہ دیکھو سکو، چھوٹوں سے محبت کا برتاو کرو، ان کے کھانے کپڑے کی فکر رکھو، ان سے لڑو بھڑو نہیں، بہت نرمی سے کام لو، پڑھنے لکھنے کا شوق دلاو، سوریے اٹھا کر ضرورت کے لیے پانی

موجود رکھو اور ناشتہ یا کھانا تیار رکھو، جب اس سے فارغ ہو جائیں، تو کتابیں، قلم کا پیاس دے کر پڑھنے کے لیے بھیج دو، غرض یہ کہ ہر وقت ان کا خیال رکھو۔

بھائی بھاونج سے برتاو

بڑے بھائی کے ساتھ تہذیب کا برتاو رکھو، ان کی رائے سے کام کرو، کبھی اپنی محنت سے ٹوپی، رومال وغیرہ بنانے کے دو، جب وہ گھر میں آئیں تو ان کا کمرہ صاف کر کے فرش و بستر لگا دو۔ بھاونج سے وہ برتاو رکھو جو اپنی حقیقی بہن سے رکھتی ہو، کوئی حرص نہ کرو، بات بات پر نہ بگڑو، جو کام کرو خوش مزاجی سے کرو ساتھ کھاؤ پیو، ان کی اپنی چیزوں میں فرق نہ کرو، بدگمانی کا موقع نہ آنے دو، خانہ داری کا انتظام مل جل کر کرو، آپس میں مخالفت نہ رکھو، ایک جان ہو کے رہو، اگر کوئی بات غلطی سے ہو جائے تو ماباپ سے شکایت نہ کرو، موقع پا کر دل صاف کرلو، ذرا ذرا سی بات کہنے کی عادت نہ ڈالو ورنہ سر اال میں گزر مشکل ہو جائے گی۔

بڑی بہن کا ادب

بڑی بہن کا ادب و لحاظ کرو، ہر وقت ان کی تکلیف و آرام میں شر نیک رہو، ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے زیادہ سمجھو، ان کی

خواہش کو نہ توڑو، ان کا ساتھ دیتی رہو، جس کام کو کہیں فوراً کر دو، جو وہ کریں اس پر اعتراض نہ کرو، ان سے اپنے کو بہتر نہ سمجھو، اگر تمھارے خلاف بھی کوئی بات کریں تو تم اس کا خیال نہ کرو، ان کو برابر پوچھتی رہو، وہ کام میں مشغول رہیں تو تم ان کے بچوں کی فکر رکھو۔ جو کام کریں تم انھیں حتیٰ الاماکان مدد دو، وقت سمجھ کے، موقع جان کے ان کو اپنے کھانے میں شریک رکھو یا ان کو بھیجتی رہو، ان کی ساسندوں پر اپنی بہن کی طرف سے طعن و تشنیع نہ کرو کہ ان کا بدلہ وہ تمھاری بہن سے ہیں، تم کہہ کر بیٹھ رہو گی، اس بیچاری پر آفت آئے گی، اور نہ ان کو کوسو، کونے سے تمھاری ہی مٹی آگے چل کے خراب ہوگی۔ بجائے محبت کے عداوت نہ پیدا کرو کیونکہ جب تم بہن کی ساسندوں کو برا کہو گی تو وہ تمھاری بہن پر زیادتی کریں گی تو گویا تم نے اپنی بہن کے ساتھ برائی کی۔ جو بات وہ مخالفت کی بھی کریں تو چپکے سے سن لو، دخل نہ دو مگر ہاتھ بٹاتی رہو، وہ پریشان نہ ہونے پائیں، یہی وقت تمھیں بھی پیش آنے والا ہے۔ ہر کام پر غور کرو، ان کی کوئی چیز اپنے کام میں نہ لاؤ، اپنی چیزان کے لیے وقف کر دو کہ کسی کو ناگوار نہ گزرے، محفل میں ان سے سرگوشی نہ کرو کہ بدگمانی ہو، جو چیزان سے مستعار لو یا بطور قرض لو سب کی موجودگی میں لو، اور سب کے سامنے دو، مال کا معاملہ ہو تو اسے بھی صاف رکھو، عقل سے کام لوتا کہ شرمندہ نہ ہونا پڑے۔

باب دوم

سرال

چند دن بطور مہمان کے

سرال میں تھیں جو باقیں پیش آنے والی ہیں وہ میں تھیں بتائے دیتی ہوں اور یہ کہ تم کو وہاں کس طرح رہنا ہے، امید ہے کہ تم ان کو ذہن نشین کر لوگی۔

جب تم بیاہ کے جاؤ گی تو تم کچھ روز بطور مہمان کے رہو گی۔ جو ملے کھالو، جو پہنائیں پہن لو، ناک بھوں نہ چڑھاؤ، مدت تک بالکل گونگھٹ میں نہ رہو کہ تم کو گھر کی خبر نہ ہو کہ کون آیا اور کون گیا اور یہ بھی نہ ہو کہ جیسے بعض بھویں آتے ہی اپنا کام کرنے لگتی ہیں، ساس نندوں کو کوئی چیز نہیں سمجھتیں، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ زگا ہوں میں سبک ہو جاتی ہیں، اور رفتہ رفتہ ان سے سب کنارہ کر لیتی ہیں۔ اگر کتنی ہی مشکل پھر پڑ جائے کوئی مدد نہیں کرتا، خود ہی بھلکتی رہتی ہیں، تم ہرگز ایسا نہ کرنا۔

ساس نندوں سے بر تاؤ

اپنے ساس و سر کو ماں باپ کی جگہ پر سمجھو اور نندوں کو حقیقی

بہن سمجھو۔ تم جو کام کرو ان کی رائے سے کرو، جو چیز تمہارے میکہ سے آئے وہ تم اپنی ساس نندوں کے پاس بیچج دو پھر وہ جو کریں اس پر تم خوش رہو، جو کچھ تم والدین کے پاس سے لائی ہو وہ سب سامان انھیں کے ماتحت رکھو، کپڑوں کے بکس ان کی خوشی پا کر اپنے پاس رکھو اور دیکھتی رہو۔ روز کے پہنچ کے کپڑے الگ رکھو اور تقریبات کے لیے الگ رکھو، ان کی مرضی کے موافق کپڑے بدلو، اپنی پسند کو بے جا داخل نہ دو، اپنی چیزوں کا خود خیال رکھو، ان سے حساب نہ لو، فرست میں کچھ دیران کے پاس بیٹھو اور ان کی نشست و برخاست پر نظر کرتی رہو، تاکہ اس گھر کے طور طریقے تم جان سکو، چکے چکے گھر کے انتظامات سے واقف ہوتی رہو کہ کیا پکتا ہے اور کس طرح قسم ہوتا ہے مہمانوں کی کیا خاطر ہوتی ہے، تو کروں کو کیا دیا جاتا ہے، دیکھو پہلے تمہارا کیا انتظام تھا اور اب کیا کر سکتی ہو، کسی کی دعوت ہو تو اگرچہ تم لہن ہو مگر کسی نہ کسی کام میں شریک رہو۔ یعنی جگہ صاف کر کے فرش و صابن، پانی، طشت، لونا، صراحی، گلاس، تولیہ وغیرہ مہیا کرو، پان تمبا کو موجود رکھو کہ وقت پر تکلیف نہ ہو اور تم بد سیقہ نہ کھلاو۔

اگر ٹھنڈک ہو تو چائے تیار کراؤ اور گرمی ہو تو شربت، کھانے میں چٹنی، اچار، سرکہ نہ ہو تو پہلے بنا کر موجود رکھو، محض لہن نہ بنی رہو، محل شرم و حیاد لیکھ کر شرم کرو، حد سے زیادہ کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی۔

بڑوں کے سامنے ادب سے سلام کر کے بیٹھ جانا اور پرده والوں سے پرده کرنا کافی ہے، بے جا شرم سے کام خراب ہو جاتا ہے۔

دونوں وقت تمام ضرورتوں سے فارغ ہو کر اپنی ساس نندوں

کے پاس بیٹھو، ساس کا ادب کرو، جوبات وہ کہیں ادب سے جواب دو، اور آنکھ پنجی رکھو، تمہیں جو کپڑے وغیرہ کی ضرورت ہو وہ کسی کے ذریعہ سے یا خود کہہ سکتی ہو۔ ضرورت پوری ہو جانے کے بعد کچھ دیر بیٹھی رہو، با تین بھی کرتی رہوتا کہ یہ خیال نہ ہو کہ اپنی ضرورت سے آئی تھیں، بلا ضرورت بھی بیٹھی رہو، تمہیں ہر کام سے واقفیت ہوتی رہے گی۔ کبھی کبھی ان کے کپڑے انھیں سی کر دو، اگر ان کو پان کا شوق ہو تو اکثر بُوہ سی کران میں مسالہ رکھ کر دیتی رہو، جس چیز کا انھیں شوق ہوا پہنچ کر کر دیتی رہو، اپنی ماں کے ساتھ جو بتاؤ رکھتی تھیں وہی بتاؤ ان کے ساتھ رکھو، نندوں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آؤ۔ اپنے تعلق کا اظہار کرو، کھانا یا جو چیز کہ عمدہ ہو اس میں شریک کرو، چھوٹی نندوں کو اپنے پاس رکھ کر وہ سب سکھاؤ جو جانتی ہو، سلیقہ مندی، گھر کی صفائی اور جو تم کر سکتی ہو وہ انھیں بھی بتاؤ تاکہ ہر کام تمہاری عدم موجودگی میں بھی تمہاری خواہش کے مطابق ہوتا رہے۔ دیکھو اس کا خیال رکھو، جو کام اچھا کرتی ہو وہ ہمیشہ کرتی رہو، آج ہے کل ندارد، یہ انداز اچھا نہیں، ہر کام استقلال کے ساتھ کرنا چاہیے۔

عام سرال والوں سے سلوک

جب اپنی جگہ پر بیٹھو تو اپنے گھر کی لڑکیاں اور جو آنے والیاں ہوں ان کو سکھاتی رہو جو بھی تشخیص آتا ہو، اس سے بخل نہ کرو، اگر وہ آن پڑھ ہوں تو ان کو پڑھانے کی کوشش کرو، غرض کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھو تمہارا دل بھی بہلے گا اور ان کو آجھی جائے گا۔ جو تشخیص دیکھنے کے لیے آئے اس کے لیے پان تہبا کو کی فکر رکھو۔ ایسی بات نہ کرو کہ تمہارے پاس سے آزردہ ہو کر جائے، تمہارے بھائی بھیج ج آئیں تو اپنی خوشی کا اظہار کرو اور خاطر مدارات میں کسی نہ کرو۔ اپنے یہاں کا بطور تخفہ کچھ موجود ہو پیش کرو اور جب باہر جانے لگیں تو کچھ ناشتہ کراوو اور کبھی کبھی اپنے گھر بلا تی رہو۔ سرال میں رہو تو میکے والوں کی خاطر کرو، اور میکے میں سرال والوں کی خاطر تواضع کرو۔ اپنے پاس بیٹھنے والیوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، انھیں اچھی باتیں سکھاؤ، بچیوں کو دین کے مسائل سے واقف کرو کہ وہ آگے چل کے ہوشیار ہو جائیں، جب تم سے وہ مانوس ہو جائیں گی تو تمہارے ساتھ ہمدردی کریں گی، غرض بہت سے فائدے تھیں پہنچتے رہیں گے، تمہارا ہاتھ بٹاتی رہیں گی، بہت سے کام تمہارے مفت میں کر دیں گی، مگر تم اس پر بھی اپنے کام سے کبھی بے فکر نہ رہو۔ جب تک وہ تعلیم

پائیں تو تم اپنا کام حتی الامکان خود کرتی رہو۔

بچا، ماموں، خالہ، پھوپھی

اپنے بچا، ماموں، خالہ اور پھوپھی کی عزت کرو، اور ان سے محبت اور تعلق رکھو اگر پاس ہوں تو ہر وقت خبر لیتی رہو، اگر دور ہوں تو رات کو جا کر، بہت اخلاق سے ملو، اگر تم سے عمر میں چھوٹے ہوں اور رشتہ میں بڑے، جب بھی ان کا ادب کرو، جو کچھ کہیں خوشی سے مانو، تم کو اگرچہ ناگوار ہو، ایسے رشتہوں کی بہنوں کو حقیقی بہن سمجھو، ان سے محبت کرو، ان کو کبھی کبھی اپنے گھر میں بلا کر ان کی خاطر کرتی رہو۔ جو چیز تمہارے گھر میں ہو، ان کو سمجھتی رہو، دعوت وغیرہ میں ان کو سب سے پہلے بلا و، انھیں اپنی رائے میں شریک رکھو، خالہ، پھوپھی وغیرہ کو کوئی بے ادبی کی بات نہ کہو، اس کا لحاظ رہے کہ انھیں سنانا گویا ماں باپ کو سنانا ہے۔ اگر انھیں قرض دو تو بھولے سے بھی تقاضا نہ کرو، نہ دل لگا رکھو کہ تکلیف ہو۔ اگر غریب ہوں تو چھپ چھپ کے مدد کرتی رہو، کبھی نہ یاد کرو کہ ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اگر وہ کچھ کرنا چاہیں اور اتنی وسعت نہیں رکھتیں اور کرنا ضروری ہے تو اگر تم اتنا مقدور رکھتی ہو تو تم کر گزو، لیکن کسی پر ظاہرنہ کرو کہ وہ شرمندہ ہوں، بشر طیکہ تمہارے شوہر اور سرال والوں کے مزاج کے خلاف نہ ہو، ان کی

عزت اپنے ماں باپ کی عزت سمجھو۔ لڑکیوں میں آج کل یہ پابندی اور اخلاق، میں نہیں دیکھتی۔ اگر کچھ روز یہی حالت اور رہی تو اولاد یہ بھی نہ سمجھے گی کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی اور بھی ہے یا نہیں، اگر تمھیں صلدہ رحمی کرتے دیکھیں گی، تو وہ بھی کریں گی اور رشتہ داریاں قائم رہیں گی۔

شوہر کے حقوق

شوہر کی خدمت

جس کے ساتھ تمہاری شادی ہوا گروہ مفلس ہو تو تو نگر سمجھو، اس کی عزت کرو، جو کہیں اس کے خلاف نہ کرو، بغیر ان کی اجازت کسی کام میں ہاتھ نہ لگاؤ، ان کی خوشی اپنی خوشی پر مقدم رکھو، ہر وقت ان کے آرام کی فکر رکھو، جو کچھ تمھیں دیں خوش ہو کے لے لو، اور جس کام کو کہیں ایسی خوبی کے ساتھ انجام دو کہ وہ خوش ہو جائیں۔ انھیں اس قدر آرام دو کہ وہ بے فکر ہو جائیں اور انھیں اپنی قلیل آمدنی سے تکلیف نہ ہو، زندہ دل ہو کر زہیں، اپنے ہم نشینوں میں عزت پائیں، ان کی ضرورت اپنی ضرورت سے پہلے پوری کرو، انھیں جہاں تک ممکن ہو اچھا کھلاو، کپڑے ان کی مفلس کے دور میں خود سی کر پہناؤ، ان کے سب کام اپنے ہاتھ سے کرتی

رہو کسی پر نہ ڈالو، چائے، ناشتا اور کھانا وقت سے پہلے تیار رکھو، کوئی بات فکر کی اس وقت ان سے نہ کہو، بے ضرورت فرمائش نہ کرو، اگر وہ نہ کر سکیں گے تو ان کو اور تم کو دونوں کو ملاں ہو گا۔ تمہاری قسمت میں ہے تو ضرور ملے گا، فرمائش بے کار ہے، جو ضرورت ہوتی المقدور تم ہی پوری کیا کرو، مردوں کو تکلیف نہ دو، بعضے متجمل مزاج نہیں ہوتے، انھیں سخت تکلیف ہوتی ہے۔

شوہر کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے

جب مردگھر میں آئیں، آتے ہی کوئی تردود والی بات نہ ہونے پائے معلوم نہیں کس خیال میں آئے ہوں اور کیا خیال پیدا ہو جائے، کھانے کے وقت اسکی دل چھپی کی باتیں کرو کہ وہ خوش ہو کر کھائیں، بے فکری میں وال مثل قورمہ کے معلوم ہوتی ہے، فکر و تردود میں ہزار نعمت زہر ہو جاتی ہے، اس کا تجربہ ہو چکا ہے بعض بیویاں آتے ہی تمام قصہ کہہ سناتی ہیں، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، آخر وہ بھی مکدر بھوکے ہی اٹھ جاتے ہیں، اللہ بھی ناخوش ہوتا ہے اور وہ بھی مکدر ہو جاتے ہیں۔ ایسی عنتل سے اللہ بچائے۔ اگر اللہ نے تمھیں کچھ بھی لیاقت دی ہے تو ان کے غم غلط کرو، مصیبت بٹاؤ، لگی بجھاؤ، آرام دو، تکلیف میں شریک ہو، اگر انھیں فکر مند دیکھو تو کوشش کرو کہ یہ پریشانی

دور ہو جائے، اگر قرض دار ہو جائیں تو تم اپنی دست کاری و محنت سے سکن دو ش کر دو، یا تمہارے پاس نقد ہو تو ہاتھ میں رکھ دو، یا زیور اتار کر دے دو کہ یہ ادائے قرض کے لیے ہے اگرچہ تمہارے میکہ کا کیوں نہ ہو، تم بلا تکلف اتار دو اور کچھ خیال نہ کرو، لیکن ان پر اپنا احسان نہ رکھو، یہ نہ سمجھو کہ ہم نے ایسا کیا ہے ورنہ سب کیا کرایا ہے کا رہے۔

عقل و سلیقہ کا تقاضا

ہر وقت ان کی خدمت میں رہو، راحت رسانی سے غافل نہ ہو، اگر وہ تمہاری خواہش کے مطابق نہیں دے سکتے تو صبر کرو اس لیے کہ ان میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ اگر تم عقل رکھتی ہو یا تمہاری تقدیر اچھی ہے تو اس سے بہت کچھ آپ پیدا کر لوگی، ٹل کام تم کرو، حسن انتظام سے روپیہ پس انداز کرتی رہو، کپڑے تم سیو، کھانا تم پکاؤ، بچوں کی نگرانی اور تربیت تم کرو، یہ سب روپیہ بچے گا تو تم بھی آرام کروگی اور راحت پھو نچاؤ گی، اگر روپیہ بہت کافی ہے تو میں یہ نہیں کہتی کہ تم خواہ خواہ تکلیف اٹھاؤ، جوبات وہ کہیں خوش ہو کر جواب دو، اگر وہ کسی وقت گرم ہوں تو تم نرم ہو جاؤ، جو کچھ وہ کہیں اس پر راضی ہو جاؤ، اگر وہ تمہارے کسی کام سے خوش نہ ہوں تو نہ ہوں، مگر تم ان کے حقوق ادا کرتی رہو کہ اللہ تم سے خوش رہے، تمہیں یہ لازم ہے کہ جو کچھ کما کر دیں تم اسی

کے مطابق گھر چلا، تم تکلیف اٹھا کر ان کی اور بچوں کی ضرورتیں پوری کرو، ایسا اجلا گھر رکھو کہ دیکھ کر ہر ایک خوش ہو، مرد کو جو کچھ میسر ہوتا ہے تم تھیس لا کر دیتا ہے اب تم جو چاہو کرو، تم اپنی خوش انتظامی سے چاہو تو خاک کا گھر لا کھ کر دو، اور بد سلیقہ سے چاہو تو آباد گھر برپا کر بیٹھو۔ دیکھو سلیقہ دنیا میں عجب چیز ہے، منتظم کبھی پریشان نہیں ہوتا، بد نظمی سے مرد ووں کو اور تمام گھر کو تکلیف ہوتی ہے، آئے دن مصیبت جھیلنا پڑتی ہے، کبھی چین سے روٹی میسر نہیں آتی، مرد الگ پریشان ہو جاتے ہیں، مرد کہاں تک پورا کریں، آخر کار وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور دوسرا شادی کر لیتے ہیں، پھر یہ زندگی و بال جان ہو جاتی ہے، بال نپے بھی عذاب جان ہو جاتے ہیں۔

شوہر کو خوش کرنے کا آسان طریقہ

سلیقہ مند عورتیں ہمیشہ سکھ چین سے زندگی بسر کرتی ہیں، دیکھو! جو ماہانہ ملتا ہے اس سے ایسا انتظام کرو کہ اچانک ضرورت کے لیے کچھ بچار کھو، وقت پر تھیس کسی سے مانگنا نہ پڑے اور خاندان کو کوفت نہ ہو اور وقت پر تم سب سے بہتر نکلو، سب تھیس عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تمہاری ہی مرضی سے کام کریں۔ مرد تمہارے مطیع و فرمانبردار ہو جائیں، تمہاری ہی نظر سے دیکھیں، تمہاری ہی خوشی سے کام کریں۔ سلیقہ شعاری بھی

ایک ایسا حسن ہے جس کی روشنی دور تک پہنچتی ہے، ہزاروں خوبصورت عورتیں بد سلیمانگی کی وجہ سے بد صورت معلوم ہوتی ہیں، شریف مزانج مرد اکثر صورت پرست سے کہیں زیادہ سیرت پرست ہوتے ہیں، جو عورتیں مرد کی تابعدار و فرمانبردار ہوتی ہیں، کیسے ہی بد مزانج مرد ہوں، وہ عورتیں چاہیں تو شوہر کو مہر بان کر سکتی ہیں، یہ کچھ دشوار نہیں ہے، مگر افسوس ہے بعض یہیں سمجھتی ہیں کہ جس قدر تیزی دکھائیں گے اسی قدر یہ تابعدار رہیں گے، یہ خیال باطل ہے اور وہ کچھ روز خیال بھی کریں گے تو محبت سے نہیں بلکہ دنگا فساد، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، یہ محبت نہیں ہے، جو عورتیں محبت سے یاد نیا کی شرم سے، یا اللہ کے ڈر سے خدمت کرتی رہتی ہیں وہی آگے چل کر محبوب ہو جاتی ہیں، مردان کے آرام کے خواہاں رہتے ہیں، ان کی ہر دلی خواہش پوری کرتے ہیں، ان کی کوئی تکلیف گوار نہیں کرتے، جو کچھ کماتے ہیں لا کر ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں کبھی حساب نہیں لیتے، وہ نہایت آرام سے بیٹھ کر زندگی بسر کرتی ہیں، لیکن یہ خوبیاں ساری عقل مندوں کو نصیب ہیں جس کو عقل ملی بہت خوب ملی، بے وقوف اس سے محروم ہیں۔ اللہ نے چاہا تو عقل مندوں کی دین و دنیا دونوں بہتر ہوگی، بے وقوف کی زندگی رور کر بسر ہوتی ہے، اولاد بھی ساتھ نہیں دیتی، مردوں کا کیا ذکر ہے تمہیں لازم ہے کہ اگر عقل نہیں تو غور و فکر سے کام لو، اس سے کچھ نہ کچھ عقل آجائی ہے۔

باب سوم

خانہ داری اور اس کے طریقے

خانہ داری کے لیے سلیقہ شعاری شرط ہے

خانہ داری کوئی ایسا آسان کام نہیں ہے، نا تجربہ کاروں کے لیے سخت دشوار کام ہے۔ گھر داری یہ نہیں ہے کہ گھر میں جو چیز ہو سر پر اٹھا کر رکھ لو، یا صندوقچے سے روپیہ نکال کر جس منگال اور پکا کر کھا پی کر بستر پر لیٹ کے سور ہو، کتابی آئے یا چور تمہاری بلا سے۔ گھر داری وہ چیز ہے جس کے لیے عقل و ہمت، اخلاق و مرودت، سلیقہ شعاری اور برداudi سب بہت ضروری ہیں، اگر یہ بتیں نہ ہوئیں تو گھر داری کیا خاک ہے، بعض نا تجربہ کار بیسوں کا خیال ہے کہ خانہ داری کوئی دشوار کام نہیں ہے، وہ ان معاملات کو بھتی نہیں ہیں، خانہ داری ایک جھنجھٹ کا کام ہے جس میں پھنس کرنے سرچھوتا ہے نہ پاؤں، اطمینان سے بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بقول تجربہ کاروں کے جس کو بدعا دو یہی کافی ہے کہ تجھ پر گھر پڑے۔ زندگی میں عورتوں کو دو مرحلے طے کرنے ہوتے ہیں، ایک

خانہ داری دوسرے بچوں کی پرورش، اگر یہ دونوں کام سرانجام ہو جائیں تو گویا نیا کاپل صراط طے ہو گیا۔

خانہ داری میں ہزار قسم کے معاملے پیش آتے ہیں، جن کے باعث بدنامی ہی بدنامی ہوتی ہے۔ جو بیباں آزاد مزاج، آرام طلب ہیں، جن کو بدنامی کا مطلق خیال نہیں، ان کو کچھ دشوار نہیں، وہ ہر حال میں خوش ہیں، میاں نے جو پایا ہاتھ میں دھر دیا، اللہ تلئے کیا، کھایا پیا، آرام سے نانگ پھیلا کر سو گئیں، دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں رہی، کوئی بھوکا ہو یا ننگا، ماں ہو یا بہن، رشتہ داروں اور ساسندوں کا کیا ذکر، کسی کی پروانیں، کسی پر چاہے کچھ گزر جائے۔ تف ہے ایسی زندگی پر جس سے کسی کو فیض نہ پہوچے، ایسے بے فیض و کم ہمتوں کا بڑوس بھی اچھا نہیں چہ جائیکہ بکھائی۔ اے بچو! شریفوں سے یہ بڑی خصلتیں دور ہونا چاہیں، ان کے لیے خانہ داری، سلیقہ شعاری، بچوں کی تربیت، شوہر کی تابع داری، حق شناسی اور کتبہ پروری بہت بڑی کامیابی و خوش نصیبی ہے۔

معاملات خانہ داری

خانہ داری سے اگر تم واقع نہیں ہو تو میں تمہارے سامنے تمام معاملات خانہ داری پیش کرتی ہوں، اگر غور کرو گی اور عمل میں لاوہ گی تو

ہمیشہ کامیاب رہوگی، نہ کبھی ناکام رہوگی اور نہ کبھی تم پر اعتراض ہوگا، ہر ایک تمھارا ہمدرد اور ہاتھ بٹانے والا ہوگا، یہ یاد رکھو کہ بہونے سرال میں قدم رکھا، آزمائش شروع ہو گئی۔ یہ عام دستور ہے، خدا نے تمھیں سمجھ دی ہے تو خوب سمجھ بوجھ کر قدم اٹھاؤ، جس وقت سے تمھارے ہاتھ میں کام دیا جائے اس وقت سے اپنے کوسب کا تابع دار سمجھو، ہر ایک کی ناز بردار، فرمانبردار بن جاؤ، جو تمھارے ناز بردار تھے اب تم ان کے ناز اٹھانے والی ہو جاؤ، گویا تم سب کی بڑی ہو، کوئی کام اپنی رائے سے نہ کرو ان باتوں میں اپنا سرتباہ بڑانہ سمجھو، ان کی رائے اور خوشی کو مقدم سمجھو، ان سے چھپا کر کوئی چیز نہ کھاؤ، اپنی ضرورتوں کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری کرتی رہو مگر موقع دیکھ کر، اگر وہ تمھارے ہم خیال ہیں تو تم ان کا ساتھ دو، اگر مخالف ہیں تو حق تلفی نہ کرو، یہ معاملے خود اپنی رائے سے نہیں سمجھے جاسکتے، دوسری اور رائیں بھی درکار ہوتی ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے کیا ہوتا ہے، اپنے دہی کو کوئی کھٹا نہیں کہتا، یہ ضرور ہے کہ ”سونا جانے گے آدمی جانے بے“ مگر خود رائی سے کسی کی طبیعت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، یہ تسلیم ہے کہ انداز کسی کا چھپا نہیں رہتا، لیکن بیٹھ کے، پوچھ کے، سن کے، دیکھ کے، ہی معلوم ہوتا ہے، اگر اللہ نے تمھیں توفیق دی تو جیسا ہو تم بھلاٰ کرتی رہو، ورنہ تمھاری ہی بے صبری، اور بد اخلاقی ظاہر ہوگی، احسان

سر جھکا دیتا ہے، اچھے برتاؤ سے دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں، حق تلفی اور بخل سے کچھ دولت نہیں جمع ہو جاتی بلکہ برے طریقہ سے خرچ ہوتی ہے، ایک کی بچت سے دس کا نقصان ہوتا ہے، داشمندوں کو تجربہ ہو چکا ہے، اگر تمھیں خرچ معقول نہیں ملتا اور تم بھی کسی قابل نہیں ہو تو البتہ تمہاری مجبوری دیکھی جاسکتی ہے۔ جب تک تمہارے ظاہری و باطنی برتاؤ اچھے رہیں گے، اگر خدا نے تمھیں کسی قابل کیا ہے تو یہ لازم نہیں کہ بخل پر اڑی رہا اور دوسروں کو نہ دو، اپنے اور اپنے بچوں پر دل کھول کر خرچ کرو، زیور بناو، کپڑے عمدہ سے عمدہ پہنو، جمع بھی کرو اور گھر کی ضرورتیں مردوں پر رکھو، یہ سراسر غلطی اور بد اخلاقی ہے، شگ ولی و کم ہمتی ہے بلکہ یہ اپنی جان پر ظلم ہے ایسوں کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، ہر ایک مخالف رہتا ہے۔

اے بچیو! اگر تمہارے ہاتھ میں گھر کا کام ہے اور تم گھر کی مالک کہلاتی ہو تو تم خوبیوں کی بھی مالک بنو، صرف روپیوں کی ملکیت سے مالک نہیں ہوتا، گھر کی تمام ضرورتیں تم ہی کو پوری کرنا پڑیں گی، مہینہ اور سال کے درمیان میں جو کچھ ضرورتیں پیش آئیں گی لامحالہ تم ہی پوری کرو گی، شادی بیاہ وغیرہ اور بہت سے ایسے کام پیش آتے رہتے ہیں جو کسی حال میں ٹل نہیں سکتے اس وقت یہ بہانہ چل نہیں سکتا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں، جیسا اکثر عورتیں کہہ کر ثال دیتی ہیں

مگر پھر کسی بدنام و ناکام ہوتی ہیں، پھر بھی وہ افسوس یہی انداز رکھتی ہیں۔
 اگر تم گھرنے سنجا لوگی تو ہر ایک کرنے والے سے بدگمان ہوگی،
 کیونکہ تمحیص تجربہ نہیں ہے اور تم ضرورت کو ضرورت نہیں سمجھ سکتیں،
 علاوہ اس کے تمحیص غلطہ کا زخم معلوم نہ ہوگا، نہ کپڑے کی قیمت، نہ کام
 کرنے کا مادہ رکھوگی جیسا کہ دنیا میں دستور ہے، کرنا، کرانا، دینا لینا، حق
 و ناقص سمجھنا، گھر کی مرمت و صفائی اور جو حوصلہ، شوق یا دستور کے موافق
 کرنا ہوتا ہے، ان باتوں کو تم کیونکر سمجھوگی، جب یہ ہوگا تو دوسرے
 کرنے والے سے بدگمانی، پھر بدگمانی سے رنجش اور رنجش سے کدوڑت
 پیدا ہوگی، کام بگڑ کے رہ جائے گا، اس وقت تم کو اپنی خاص ضرورتوں
 کے سوا کوئی اور ضرورتیں معلوم نہیں ہیں، ابھی تمحیص میری یہ نصیحتیں
 فضول معلوم ہوتی ہوں گی بلکہ یہ خیال ہوگا کہ جو میں کہہ آئی ہوں اگر
 کریں تو اس سے بہتر کر سکتے ہیں یا جو کر رہے ہیں اس سے بہتر
 ہے، مگر نہیں یہ محض تمہارا خیال ہے، جس وقت تمہارے ہاتھ میں گھردایا
 جائے گا اور ضرورتیں درپیش ہوں گی تو پھر حقیقت ساری کھل جائے
 گی، کچھ کرتے دھرتے نہ بنے گا، آئی ہوئی عقل جاتی رہے گی۔

خانہ داری کے لیے ضروری سامان

اب تمحیص یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گھرداری میں سب سے زیادہ

ضروری باتیں کیا ہیں، کن کن چیزوں کی روز اور کن اشیاء کی مہینہ میں ضرورت ہوتی ہے، کون سی چیزیں وقتاً فوقتاً موجود رہنا ضروری ہیں اور ہر وقت کے لیے کیا کیا موجود رہنا چاہیے، یہ تو ضرور ہے کہ کرنے سے تھیں سب معلوم ہو جائے گا مگر بدنام ہو کے۔ اپنی بدنامی سے پہلے ابھی یہ جانا ضروری ہے کہ کتنا روپیہ کن ضرورتوں میں صرف ہوتا ہے، کون سے کام ضروری ہیں، کون سے کام فضول ہیں۔

گھر میں علاوه اور چیزوں کے چار پائیاں بہت ضروری ہیں، ان کی کمی سے سخت تکلیف ہوتی ہے، وقت پر مانگنا پڑتا ہے، خود کو شرمندگی ہوتی ہے اور دوسروں کو ناگوار گزرتا ہے، یہ لازم نہیں کہ مسہر یاں ہوں یا نواڑ کے پلٹ ہوں، باندھ کے ہوں، موٹے ہوں یا باریک کسی طرح کے بھی ہوں، ضرورت سے زیادہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ مہمانوں کو زیمن پر لٹاؤ، یا خود لیبو، دونوں باتوں میں ذلت ہے، پھر یہ بھی سمجھو کر روپیہ ان میں کس قدر خرچ ہوتا ہے، اگر تمہارے گھر میں چار پائیوں کی ضرورت ہو تو کم از کم آٹھ پلٹ مانگو اتنا چاہئیں، یوں ہی ہر چیز کا اندازہ کر سکتی ہو، سخت، چوکی وغیرہ اور بہت سی ایسی ضرورتیں جن کے مہیا نہ ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہے، ان کا گھر میں رہنا لازمی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی دو تین سال میں ضرورت ہوتی ہے، علاوہ ان کے جو ہر وقت کام میں آتی ہیں، ان کے نہ ہونے سے کوئی کام نہیں چل سکتا۔

ہر وقت کام آنے والی چیزیں

برتن وغیرہ، یعنی برتن کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں مثلاً کڑھائی، کلپھا، دست پناہ، تو، چاقو، قینچی، سروتا، سیخیں اور چولھا۔ خیر اگر تمھیں سلیقہ ہے تو چولھا مٹی کا اور سیخیں بانس کی بناسکتی ہو، مگر اور چیزیں ایسیں ہیں کہ ان کے لیے دوسری صورت تم سے ہونہیں سکتی، بغیر چاقو چھری قینچی سروتا کے کام ہرگز بن نہیں سکتا، دوسری صورتوں سے اگر کام نکال لوگی تو درست نہ ہوگا، اسی طرح سوپ، چھلنی باریک و موٹی، دال چھلنی، دواری، ڈلیاں، پونے باریک و موٹے، جھاب، خوان پوش، دستر خوان، بڑے اور چھوٹے کم از کم دو ضرور ہوں۔

برتنوں کی تعداد

خوان لکڑی کے یا سینیاں چھوٹی بھی بڑی بھی، برتن حسب ضرورت بلکہ ضرورت سے زیادہ ہوں، پتیلیاں کئی عدد تا بنے والموئیم کی اور پتیلے دو ضرور ہوں، چار سے پانچ کلوٹک پکانے کو، اگر اللہ تمھیں اتنی مقدرت دے تو دیگر بھی ضروری ہے، کلفگیریں، کلپھے کئی عدد، ایک لکڑی کی ڈولی، کھجڑا وغیرہ گھوٹنے کے لیے، لگنیں کم سے کم دو، تسلی چکنے پنیدی کے، دو چھوٹے اور بڑے۔ جن میں نان خطاں، ہوار وٹیاں، پرانے آسانی سے پک سکیں، اور اوپر کے سر پوش بھی ضرور ہوں کہ وقت پر

وقت نہ ہو، یہ سامان مع دست پناہ اور چھٹے کے الگ رکھو، ہر وقت ان کو کام میں نہ لاؤ کہ وقت پر جستجو کی ضرورت پڑے، جو چیز ہر وقت کام میں رہتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے ضرورت پر تلاش ہوتی ہے، اگر کام کے لیے زکالو تو فوراً صاف کر کے رکھ دو، آج کل پرانہ چھوڑو، ہر چیز کے لیے احتیاط شرط ہے، برتن چھوٹے بڑے پیالے، اور رکابیاں تعداد میں اتنی ہوں کہ بیس پچیس آدمی ایک وقت میں کھا سکیں، مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، چینی اور تام چینی کے علاوہ روزانہ برتنے کے لیے تانبہ کے برتن میں قلعی بہت ضروری ہے۔ ہفتہ کے بعد شاید اس قابل نہ رہ سکیں کہ ان میں پکا کر کھا جائے، ذرا بھی قلعی کم ہو جاتی ہے تو کھانا رکھنے سے بدمزہ ہو جاتا ہے مگر تانبہ کے برتن پائیدار ہوتے ہیں اور ان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ جب چاہو بدلوالو، برتن بغیر نام کے نہ رکھو، بہت جلد ضائع ہو جاتے ہیں، بغیر نشان کے تم اپنا نہیں بتا سکتیں، جب برتن منگا و نشان بنالو، چینی وغیرہ کے برتوں کے ساتھ چچے متفرق قسم کے کئی درجن موجود رکھو، چائے کے سٹ کے ساتھ بھی چچے حسب ضرورت رکھو۔ سماور، کیتی وغیرہ سب ایک جگہ رکھو، کوتلوں کا بھی انتظام رہے۔

جنس رکھنے کی جگہ

کوٹھری کی بھی دیکھ بھال رہے کہ اگر سال کی جنس رکھنا ہو تو

بکھاری یا کوٹھیاں جو دیہاتوں میں بنتی ہیں وہ بنوار کھو، ان میں وقت پر بھر دیا جائے اور ماہ بہ ماہ نکال کر پیپوں یا مشہوروں اور ملکوں میں بھر رکھو، گل ضروری چیزیں روز کے خرچ کی ان میں بھری رہیں، اور جو چیز جہاں بھر دو وہاں اس کا نام لکھ دو، مثلاً زال، چاول، آٹا، مسالہ وغیرہ اور ہر چیز پر چکتی لگا دو کہ وقت پر بلا تکلف نکال لو۔

اور دوسرے لوازمات

ان چیزوں کے لوازمات بھی تیار ہیں، جیسے بانٹ اور ترازو جو چیز لوایا کسی کو قرض دو وہ تول کر دو، ترازو بھی چھوٹی اور بڑی دونوں رکھو، لین دین میں بڑی احتیاط رکھو کہ اللہ کے یہاں پکڑی نہ جاؤ، اس کی بڑی تاکید ہے۔ ڈلی، تمبا کو بھی تول کر دو، بیضہ مرغ لو تو ہم وزن دو، ایمان بڑی چیز ہے۔ تمام ضروری چیزیں ایک ہی مرتبہ مہینہ یا ہفتہ میں منگالو، تھوڑی تھوڑی منگانے میں برکت نہیں ہوتی۔ لکڑی، گھی، تیل، مسالہ، کھنا، چونا، ڈلی، تمبا کو یہ بہت ضروری ہیں، ان کے نہ ہونے سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور بدنامی بھی۔ گھر میں چراغ کی بہت ضرورت ہے، لاثین یا ڈیاں اتنی رکھو کہ ہر موقع پر کام دے سکیں، ڈیوڑھی پر بھی روشنی کا انتظام رکھو کہ اندھیرے میں کوئی نہ کھو کر کھا کر گرنہ جائے اور بدنامی تھماری ہو، اگر بجلی کا انتظام ہو تو بلب

وغیرہ ضرورت سے زائد مانگا کر رکھو کہ اچانک ضرورت پیش آنے پر کام آئے، کوٹھری کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھو، خود بیٹھ کر تلواؤ، جو چیز دواپنے ہاتھ سے دو، ہر چیز کی دیکھ بھال کرتی رہو، کسی پر نہ چھوڑو، بے فکر ہو کرنہ بیٹھو، جو چیز منگا و اس کا نرخ دوسروں سے دریافت کرلو، اگرچہ چند پیسوں ہی کی کیوں نہ ہو، اگر تم جانچ نہ کرو گی تو تصحیح بے وقوف سمجھ کر لوگ خوب لوٹیں گے۔

جنس کی تعداد

پہلے تم اپنے گھر کے آدمیوں کو دیکھو، اگر گھر میں چار کھانے والے ہیں اور ایک ماما تو جنس کی تعداد یہ رکھو:

گھیوں ۵ کلوگرام، چاول ۷۳ کلوگرام، دال ۱۲ کلوگرام۔

مسالہ متفرق: دھنیاد ۶ کلوگرام، مرچ سرخ ۵۰۰ گرام، نمک ۳ کلو

گرام، ہلڈی ۲۵۰ گرام، پیاز ۵ کلوگرام، لہسن ۶ کلوگرام، ادرک ۱۲۵ گرام،

کھٹائی ۵۰۰ گرام، زیرہ سفید ۲۰ گرام، زیرہ سیاہ ۲۰ گرام، الائچی سیاہ

۲۰ گرام، لونگ ۵۰ گرام، ہینگ ۲ گرام، پیتھی ۲۰ گرام، کلونجی ۲۵۰ گرام،

گھنی پونے تین کلوگرام، تیل سرسوں کا پونے تین کلوگرام، گوشت

اور سبزیاں روزانہ خواہش اور ضرورت کے مطابق منگاؤ۔

یہ حساب میں نے بناتو دیا ہے لیکن خرچ کا اندازہ کر کے جتنا

منگا سکتی ہوا تناہی منگا و، نقد خریدو، قرض نہ لو، اگر ۴۵۰ گرام گوشت
بکری میں پورانہ کر سکتی ہو تو کوئی اور ترکاری وغیرہ جو تیل اور بھی میں
تیار ہو سکتی ہے اور نقصان بھی کچھ نہیں ہو تو منگالو، اگر بکرے کا گوشت
منگا ناچا ہو تو ایک وقت گوشت رکھو اور دوسرے وقت ایسی چیزیں جو
ذائقہ بد لئے ہوں جیسے موچھی، روچخ، کڑھی، پھلکی، یہ چیزیں
بھی پسند کے قابل ہیں، اگر اس طریقہ سے کرو گی تو تمہیں بھی اتنا بچ
رہے گا کہ کبھی مہینہ میں کچڑی اور پلاو بھی کھا سکتی ہو اور کھلا سکتی ہو،
گوشت میں ترکاری ضرور شامل کروتا کہ مزیدار بھی ہو اور پورا بھی
پڑے، ترکاری، پان اور بالائی ضرورتیں روز رو زکی پوری کرتی رہو۔

انتظام

خانہ داری کے لیے تدبیر و انتظام کی بڑی ضرورت ہے، بغیر
انتظام گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اگر تدبیر کے ساتھ نہ کرو گی تو
تمہارا خرچ زیادہ ہو گا اور بجائے آرام کے تکلیف اٹھاؤ گی۔ یاد رکھو
گھر کے لیے حتی الامکان قرض نہ لو، کم سے کم میں گھر کا خرچ چلاو،
اگر خرچ نہ ہو تو نہ منگا و، اگر قرض ہو گا تو آئندہ مہینہ میں پھر تم ایسا نہیں
کر سکتیں، خالی دال بھی تم مزیدار نہیں پکا سکتیں۔

جس جگہ جنس رکھو اس کا فرش پختہ اور صاف ہو، اسی جگہ سوپ،

چھانی، ترازو، بانٹ سب موجود ہیں، ایک مرتبہ میں کل جنس تو لا کر مقلفل کر دو، اگر اتفاق سے کوئی چیز رہ گئی ہو تو تم ہی جا کر نکال لاؤ اور جو چیز تمہاری خوش انتظامی سے نجح جائے اسے الگ رکھو، اگر اچھا انتظام کرتی رہو گی تو تمھیں قریب پندرہ روز کی جنس فالتو نجح جائے گی، اس کا خرچ تمھیں نجح جائے گا، پھر دوسرا کام کر سکتی ہو، جو عورتیں منتظم ہوتی ہیں، مگر مردوں سے چھپا چھپا کے کرتی ہیں، ان سے ضرورتیں پوری کراتی رہتی ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں کہ پریشان کر کے فرمائیں پوری کراتی رہتی ہیں، یہ برا کرتی ہیں، جب اپنے شوہر کو آرام نہ دیا تو سب بے کار ہے۔ میرا مقصد توبیہ ہے کہ جو کچھ کرو انہیں کے آرام کے لیے کرو، جن کی وجہ سے تم کو راحت پہنچتی ہے، اگر وہ نہ دیتے تو تم کہاں سے کرتیں، میں تمھیں کل چیزیں ضرورت کی تدبیر کے ساتھ بتا چکی، اگر اس پر بھی تم عمل نہ کر سکو تو تمہاری نالائقی ہے اور تمہارے گھر والوں کی بد قسمتی ہے، تم یہ کہو کہ سب تو منگاتی ہوں مگر پورا نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط ہے، میں یہی کہوں گی کہ تم میں انتظام کا مادہ نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتیں۔

گھر کی صفائی

گھر میں ایک خاص جگہ اپنی کرلو، ایک کمرہ ہی سہی مگروہ مرضی کے مخالف ہو، جس میں آرام دہ چیزیں موجود ہوں، مثلاً کھونٹیاں،

الماریاں، رج (واش میں) جہاں ہاتھ دھوئے جا سکیں اور وضو کیا جاسکے، نالی جس سے پانی نکل جائے، روشن دان جس سے روشنی اور تازہ ہوا آئے، وسعت کم سے کم ایسی ہو کہ ایک چار پانی اور ایک چوکی آسکے، تخت پر ایک صاف چادر بچھی ہو کہ بیٹھنے والے بیٹھ سکیں اور چار پانی پر بستر لگا ہو کہ آرام کرنے والے آرام کر سکیں۔ احتیاطاً پینگ پوش اس پر ڈال دیا جائے کہ چار روز میں میل کھا کے بد شکل نہ ہو جائے، تخت پر فقط چادر ہی نہ ہو، اس کے نیچے دری یا قالین ہو، قالین پر چادر بچھاؤ، اس پر دائیں بائیں نکلیے لگاؤ، ایک چولھا کو نہ یا تیل سے جلنے والا یا بجلی یا گیس کا ہو، موقع سے رکھو، ذبیہ اور دیا سلاٹی وغیرہ موجود رکھو کہ وقت پر تم کسی کی بیٹھنے بیٹھنے خاطر کر سکو۔ الماریوں میں چائے کا سٹ اور چائے شکر وغیرہ سب ٹھیک رکھو، جب ضرورت ہو کہیں اٹھنا نہ پڑے، سب چیزیں اسی جگہ موجود ہیں، صحیح سوریے اٹھ کر چائے ناشستہ سب تیار کرو، اگر چائے تیار کرنا چاہو تو پانی چڑھا کر نماز پڑھ سکتی ہو، کلام مجید کی تلاوت کر سکتی ہو، بعد فراغت نماز پھر چائے تیار کرلو، کمرہ بہت صاف رکھو، اگالدان بھی ضرور ہو، زمین پر تھونکنے سے غلاظت اور بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو کئی اگالدان رکھو، طشت، لوٹا، حصاری، گلاس بھی کئی ہوں، اور دو ایک گھڑے بھی موجود ہیں اور ضرورت کے لیے پانی موجود ہے۔ لوٹا تخت اور

ز میں پر نہ رکھو، چوکی اسی لیے ہوتی ہے، طشت چوکی کے پاس رکھو،
وضو چوکی پر بیٹھ کر کرو، نماز پڑھ کے جائے نماز کھوٹی پر لٹکا دو، کھانے
پینے کا سامان اتنا رکھو کہ کم سے کم ہفتہ کے اندر کسی چیز کی ضرورت نہ
ہو، جب اپنے کمرے کو صاف رکھنے کی تم عادی ہو جاؤ گی تو گھر بھی
میلانہ دیکھا جائے گا۔ پھر گھر میں جو چیز بے موقع پاؤ اسے قرینہ سے
رکھ دو۔ جھاڑ و دونوں وقت دلاتی رہو، ہر جگہ ایسی رکھو کہ وضو اور نماز بہ
فراغت ہو سکے، اگر ہر جگہ تخت نہ ہوں تو چٹائی ضرور رکھو، جو کمرہ ٹھنڈا
دیکھواں میں فرش، ٹکری، ٹکھے، اور دوسری آرام کی چیزیں مہیا رکھو، اگر
یہ آرام والی چیزیں موجود ہیں گی تو ہر شخص یہاں آرام لینے کی غرض
سے آئے گا، کوئی جس میں جنس وغیرہ رکھی جاتی ہے اس کو ہر روز
دیکھتی رہو، اس میں یہ خیال رہے کہ ہر چیز ترتیب سے ہو کہ آسانی
سے نکال سکو، چو ہے وغیرہ نقصان نہ کریں۔

کپڑے کے بکس دوسری کوٹھری میں اپنی اپنی جگہ پر رکھو، اس
میں کوئی چیز کھانے کی نہ رہے کہ چوہوں سے نقصان پہونچے، ان
بکسوں کو برابر دیکھتی رہو کہ تمہاری غفلت سے کیڑے نہ لگ جائیں۔

باب چہارم

تربیت اولاد

یہ کوئی دشوار کام نہیں ہے اولاد کی محبت سب کچھ سکھا دیتی ہے مگر اس کے لیے عقل و سلیقہ شرط ہے، جو بد سلیقہ ہیں ان کو اور ان کی اولاد کو زندگی دو بھر ہو جاتی ہے، پرورش پانے کو تو بچے پرورش پا جاتے ہیں مگر حیوان ہی رہتے ہیں، نہ خاموشی کا سلیقہ، نہ بات کرنے کا طریقہ، بات کے وقت خاموش رہے، خاموشی کے وقت جو چاہا کہہ دیا، نہ کھانے کا سلیقہ نہ پینے کی تمیز، نہ پہنچنے اور ٹھنے کا انداز، کپڑے پھٹنے ہیں تو کچھ پروانہ ہیں، یہاں ہیں تو بے جا علاج ہے، کسی چیز سے پر ہیز نہیں، اپنی زندگی سے جیے، موت آگئی مر گئے، مر گئے تو بلا کشی۔ ایسی بد سلیقہ ماوں کے لیے بچوں کا ہونا قیامت ہے، ایک بچہ بھی آفت جان ہو جاتا ہے، اور جو سلیقہ مند تحریر ہے کار ہیں، جن کو لڑکے عزیز ہیں اور ان جام پر نظر ہے وہ نہایت خوبی کے ساتھ پرورش کرتی ہیں۔ تربیت اولاد بھی اور اطاعت خاوند بھی، اور ان با توں کو غنیمت سمجھ کر فخر

کرتی ہیں اور پرورش کرتی ہیں، ایک قلیل آمدی پر نہایت خوبی کے ساتھ گزر کرتی ہیں کہ دیکھنے والے خوش ہوتے ہیں۔

پرورش اولاد کا آسان طریقہ

بچیو! اس کے آسان ہونے کا طریقہ میں ابھی تھیں بتائے دیتی ہوں، پہلے تم سویرے اٹھنے کی عادت ڈالو، کہ دن بھر کی ضرورتوں کو تم با آسانی پورا کر سکو، اور ایک آدھ گھنٹہ نکال کر دم بھی لے لو، قاعدہ یہ رکھو کہ سویرے اٹھ کر بچوں کو فارغ کرا کے بستر پر لٹا دو، کپڑے اور بستر پہلے سے ٹھیک رکھو، گدا اور چڑا احتیاط کے لیے اور نہا لپے حسب ضرورت، تکیہ، مینڈ، سب موجود رکھو اور صاف رکھوتا کہ وقت پر وقت نہ ہو اور گندگی سے بیماری پیدا نہ ہو جائے اور دوائیں بھی ان کے ہر مرض کی مہیا رکھو کہ وقتاً فوقتاً کام آتی رہیں اور وقت پر پریشانی نہ ہو، فرض کرو اگر رات کو بچے کی طبیعت خراب ہوئی، گود میں بچہ مچلا جاتا ہے، بستر پر تڑپا جاتا ہے، اگر یہ دوائیں موجود ہیں تو بہت جلد یہ تکلیف رفع ہو سکتی ہے۔ دوائیں بھی اگر اللہ نے چاہا تو ضروری ضروری جن کا تجربہ ہو چکا ہے لکھوں گی۔ دواؤں کے ساتھ ساتھ اور ضروری چیزوں کا بھی انتظام رکھو، مثلاً ہاون دستہ، کھرل، سل بٹہ، کونکہ، دیا سلامی، روئی، کپڑا، چمچہ، کٹوری، پتیلی، ہر قسم کے تیل، جڑی بوٹیاں، برگ و تخم

وغیرہ اور دو چار مفید درخت، اپنے گھر میں ہو سکیں تو لگا لو مشاً گلاب، چینیلی، گل صد برگ وغیرہ، ان سے ہوا بھی خوش گوار ہو گی اور وقت پر کام بھی آئیں گے۔ دیہات اور شہر میں جو اشیاء ضروری ہوں انھیں تلاش کرلو، اگر یہ سب چیزیں مہیا رہیں گی تو اللہ کے فضل سے ضرور تیں بھی رفع ہوں گی، اور اس انتظام سے تمہارے بہت سے کام انجام پائیں گے، کوئی کام تصحیح دشوار نہ ہو گا، گھر داری بھی کر سکتی ہو، شوہر کی تابع داری بھی اور تربیت اولاد بھی، بچوں کی طرف سے اطمینان بھی رہے گا۔ دیکھو یہ سب ضروری باتیں ہیں جن کے ہونے سے کوئی کام رک نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ان سب کے لیے سلیقہ درکار ہے، ایک یہ ہے کہ بچہ کو محفوظ و آرام دہ جگہ پر سلا کر دونوں پہلوؤں پر تکمیل رکھ دو، اور بے فکری سے نماز پڑھو یا ناشتہ کا انتظام کرو یا کھانے کا، طلوع آفتاب سے پہلے تصحیح بہر حال موقع مل سکتا ہے کہ ناشتہ وغیرہ سے فراغت پا کر کلام مجید پڑھو، کتاب دیکھو کیونکہ اکثر یہ وقت بچوں کے سونے کا ہوتا ہے، اگر جاگ اٹھیں تو وہ میری پہلے بتائی ہوئی ترکیب عمل میں لاو، لیکن دوسرے وقت طلوع آفتاب کے بعد لامحالہ یہی ترکیب کرنی پڑے گی۔

بس وہی ترکیب کر کے کھانے کا یوں انتظام کرو کہ جس وغیرہ شکوا کر دے دو کہ پھر تصحیح بار بار نہ دینا پڑے، پھر ایسی جگہ بیٹھ کر بچہ کو

لے لو کہ باور پچی خانہ کی بھی نگرانی رہے اور بچہ بھی نہ روئے، اور جب باہر بھیجو تو ہاتھ منہ دھو کر کپڑے بدل کر بھیجو، تاکہ تازہ ہوا کھا کے خوش اور صحبت مندر رہے، ایسے میں تم اور ضرورتیں پوری کرو، یوں تو مدتوں کی ضرورتیں پہلے سے پوری کر سکتی ہو۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بچوں سے بے فکر رہو، نہیں ہر وقت خیال رکھو، ان کے کھانے کا بھی معقول انتظام رکھو اگر وہ بھوکے رہیں گے تو ہر چیز منہ میں ڈال لیں گے، جس سے نقصان پہنچے گا اور عادت خراب ہوگی، غذا دو تو ہلکی، مگر سال کے اندر اندر دینے سے پیٹ بھاری ہو جاتا ہے اور معدہ میں خرابی آ جاتی ہے، سال ڈیڑھ سال کے بعد دینا مناسب ہے، وہ بھی بے وقت ہر گز نہ دو، بچوں کو بہت اپنے پاس بھی نہ رکھو کہ وہ لہکٹ ہو جائیں، موقع سے لو، ان کو لے کر بے فکری سے نہ لیٹو کہ سو جاؤ، جیسے کہ اکثر بیباں بچوں کو لے کر سو جاتی ہیں، نہ گھر کی خبر نہ باہر کی، مرد بھی پریشان ہیں اور عورتیں بھی، مگر انھیں کچھ پروا نہیں، اور بچہ بھی ماں کو نہیں چھوڑتا، بس کش کمش میں جان ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، صبح دن چڑھے تک سونا منہوس ہے۔ ایسی سونے والی بیباں نماز سے محروم رہتی ہیں، یہ بہانہ مل جاتا ہے کہ کپڑے ناپاک ہیں، یہ کفران نعمت ہے، اللہ نے اولاً دکی نعمت دی تو اس کے عوض نماز کھو بیٹھیں، کتنی بری بات ہے اللہ مجھے اور ہر مسلمان کو ان بری خصلتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین!

بچوں کی تعلیم

بچوں کی تعلیم کی ابتداء اللہ کے نام سے کرو، کوئی اور لفظ نہ کہنے پائیں، ایسی باتیں نہ سکھاؤ جو آج کل راجح ہیں کہ بچپنے سے انگریزی، ہندی الفاظ سکھائے جاتے ہیں، ایسے الفاظ ان کے سامنے زبان سے نہ نکالو، بچہ بہت جلد سیکھ لیتا ہے، ان باتوں سے خوش نہ ہو بلکہ افسوس کرو، ان کی زبان پر اللہ کا نام اور رسول کا نام روائ کرو، اس طرح سے کہ اللہ کی وحدانیت و قدرت کا ان کو پورا یقین ہو جائے۔ جو چیز تم سے مانگ لے کہو اللہ سے مانگو اور جو چیز دو کہو اللہ نے دی ہے۔ ہر طریقہ سے ان کے دل میں ایمان کی قوت پیدا کرتی رہو، ان کے ہر کام کی ابتداء بسم اللہ کے ساتھ کرو، ان کو وہ کلمہ سکھاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کو پہچا نیں، جب ان کو سمجھ آجائے تو ان کو کلام مجید کی چھوٹی چھوٹی سورتیں، سورہ اخلاص و سورہ کوثر وغیرہ کا ایک ایک لفظ سکھاتی رہو، ساتھ میں ترجمہ بھی سکھاتی رہو، رفتہ رفتہ بڑی سورتیں یونہی آگے چل کر سیکھ جائیں گے۔

بچوں کی نگہداشت

بچوں کو بری صحبتوں سے دور رکھو، ہر وقت خیال کرتی رہو کہ ان کی طبیعت کسی اور طرف مائل نہ ہو، ان کی ضد پوری نہ کرو، مانگنے

سے پہلے ان کی خواہش پوری کر دو، تاکہ ضد نہ پیدا ہو، ان کے ساتھ ایسا انداز رکھو کہ وہ تم سے بے خوف نہ ہوں، تمہارا اشارہ ان کو کافی ہو، بہت مارنے اور بار بار کہنے سے بچے بے حیا ہو جاتے ہیں، لس اشارہ سے کام لو، ہر وقت شیر ٹھی باتیں نہ کرو، تھوڑی خط پر سمجھا دو، غصہ میں کوئی لفظ بے جانہ نکالو کہ پچھتا ناپڑے، ان کی طرف سے کسی کو بران کہو، بلکہ ان ہی کا قصور سمجھو، ان کا کہنا نہ مانو، ہر بات کی جانچ کرتی رہو۔ دوسرا شخص جو کہے اس کا یقین کرو، مگر تھوڑی دریے کے لیے، جب تک تحقیق نہ کرو، بچے خوف سے مکر جاتے ہیں، اگر تم ان کی بے جا پاسداری کرو گی تو ان کو پھر موقع ملے گا، اگر کوئی پڑی چیز اٹھا لیں تو فوراً اسی جگہ رکھوادو، اگر چہ دور ہی کیوں نہ ہو، اگر تم اس جگہ تک جا سکتی ہو تو جا کر سامنے رکھوادو کہ آئندہ احتیاط رہے۔ کسی غیر کی چیز کے سامنے کھڑا نہ ہونے دو، اگر وہ دے توحید ادب میں رہ کے واپس کر دو، جھوٹ اور چغلی سے روکتی رہو، مار کر نہ سوہیں، ان سے بے تکلف ہو کے باتیں نہ کرو، کہ وہ بے حجاب ہو جائیں، ان پر اپنی محبت کا اظہار نہ کرو، کسی بات میں ان کی بے جا طرف داری نہ کرو۔ سب بچوں کو ایک نظر سے دیکھو، ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو کہ ایک دوسرے کو ذلیل سمجھیں، کبھی بچوں کے ہاتھ میں پیسہ نہ دو، خود مناسب سمجھ کر چیز منگا کر سب کو برادر تقسیم کر دو، بچوں کے ہاتھ میں پیسہ دینا، ان کی ہر خواہش پوری کرنا

بڑی غلطی ہے، یہ محبت نہیں بلکہ عداوت ہے۔

لڑکیوں کے پرده کا خیال

لڑکیوں کے پرده کا بہت لحاظ رکھو، جس وقت سے ان کو سمجھ آئے، ہم عمر لڑکوں سے علیحدہ رکھو، ان سے بات کرنے کا موقع نہ دو بلکہ لڑکیوں کے پاس بھی تہائی رہنے دو، ہنسی مذاق سے روکتی رہو، ان کو بے موقع کہیں آنے جانے نہ دو، اپنے ساتھ بھی ہر روز ہر جگہ لے جانا مناسب نہیں، اگر چہ پچھا اور ماموں ہی کا گھر کیوں نہ ہو، گھر سے ممانعت نہیں بلکہ راستہ کا خیال ہے اور ان کے شوق میں ترقی ہونے کا خوف ہے، آج تمہارے ساتھ گئیں، کل کسی اور کو ساتھ لے کر جائیں گی، ہر کام میں انجام پر نظر رکھو، یہ تعلیم بچوں اور بچیوں کی ضروری ہے، بچیوں کے پرده کا زیادہ خیال رکھو، ہر بڑی بات میں روک ٹوک کرتی رہو، ان میں کسی قسم کی آزادی پیدا نہ ہو سکے، کپڑے اور زیور اپنی خوشی کے مطابق پہناؤ، ان کی رائے پر نہ چھوڑو گزشتہ زمانہ کی حالت پر نظر رکھو، اس کے خلاف نہ کرو، بے جا کتابیں نہ دیکھنے دو، نماز پڑھنے اور قرآن و حدیث پڑھنے کی تاکید کرتی رہو، ادب اور لحاظ سکھاؤ، زیادہ باتیں کرنے سے روکو، زیادہ باتیں کرنا بیوقوفی کی دلیل ہے، بچیاں کم سخن اور شرمیلی بھلی معلوم ہوتی ہیں، کم سخنی اور شرم شریفوں کے انداز ہیں۔

دستکاری

بچیوں کو کاہل نہ بناؤ، ان سے کام لیتی رہو، کپڑے سلواؤ، کھانے پکانے میں شریک رکھو، کوئی ہانڈی خاص انھیں سے بکاؤ، خانہ داری میں شریک کرتی رہوتا کہ ان کو مہارت حاصل ہو اور بخوبی اس سے واقف ہو جائیں۔ حساب خانہ داری انھیں کے ہاتھ میں رکھو، مگر تم ان سے حساب لیتی رہو، کپڑے وغیرہ کے لینے دینے اور ان کے بدن کی صفائی کا وہی خیال رکھو جس کی بابت میں لکھ آئی ہوں، یہاں تک کہ جتنی ضرورتیں تھیں پیش آتی ہیں، اور وہ ان کو بھی پیش آنا ہیں، وہ سب ان سے پوری کراتی رہو، انھیں پرنہ چھوڑ بیٹھو کہ ان کے چلے جانے سے تھیں مصیبت پیش آئے، ہر کام کو انتی پلٹتی رہو کہ کرنے کی عادت رہے۔ غرض یہ کہ نہ تم نہ لڑکیاں کسی کام میں محتاج رہیں، کتر بیونت اور دست کاری میں ایسی مشاق رہیں کہ دوسروں کو ان سے مدد ملتی رہے۔ سلیقہ شعاعورتوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اگر یہ باتیں ہوئیں تو قلیل آمدی میں بھی آرام پاسکتی ہیں، جہاں تک ممکن ہو اور معیوب نہ ہو: بچیوں کو ہر کام کا عادی بنانا چاہیے، کسی وقت وہ بے کار نہ رہیں، آج ان کی محنت اگر تم سے نہیں دیکھی جاتی تو کل تم کیسے دیکھ سکو گی جب زندگی کا انھیں پہاڑ اٹھانا پڑے گا اور اس وقت پھر یہی مثل ٹھیک اترے گی کہ ”اب پچھتا ہے کا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت“۔

باب پنجم

چھوٹے بچوں کا علاج

بعض بچوں کو زچہ خانہ سے شکایتیں پیدا ہو جاتی ہے، کبھی زہر کے دانے نکل آتے ہیں، کبھی پیٹ میں درد امتحنا ہے، کبھی پسلی کی شکایت، کبھی سینہ جکڑ جاتا ہے، اسی طرح ایک نہ ایک مرض کھڑا رہتا ہے۔ اگر ماں میں تجربہ کار ہو میں تو مرض بڑھنے نہیں پاتا، اگرنا تجربہ کار ہو میں تو مرض بڑھتے کام تمام کر دیتا ہے، اگر حکیم وڈا کثر موجود ہوئے تو علاج میں آسانی ہوتی ہے مگر وقت پر اتنا روپیہ نہ ہوا کہ روز نیس دی جائے، ان کی خاطر کی جائے تو پھر دشواری ہے، اس لیے ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ایسے نسخے یاد رکھے کہ وقتیں نہ اٹھانا پڑیں۔

زچہ خانہ کی بیماریاں

شروع میں زچہ خانہ میں کڑوا تیل لگانے کا زیادہ رواج ہے خاص کردیہات میں، اس سے گرمی میں بچوں کے سر میں دانے پیدا

ہو جاتے ہیں مگر قوت کے خیال سے اس کا استعمال جاری رکھتے ہیں، اگر گرمی ہو تو کچھ روز تیل موقوف کر دو، دوسری دوائیں بتاؤں گی استعمال کرتی رہو، شکایت موقوف ہونے پر پھر وہی تیل کام میں لاو، کڑوا تیل بچوں کے لیے دیہاتی حیثیت سے بہت مفید ہے، اگر سر میں دانے ہیں اور بدن میں بھی تو دوسری دوائیاں لو، وہ زہر کو مفید ہو گی۔

ٹھنڈی دوائیں زچہ خانہ میں نہ دینا چاہئیں، وہ دوائیں جو میں بھی بتاتی ہوں اس سے انشاء اللہ فائدہ ہو گا۔

نر کچور ۵ گرام، زیرہ سفیدہ ۵ گرام، چاکسو ۵ گرام، ان سب کو باریک کوٹ چھان کر رکھو، نہار منھ روز ۱۰ گرام چھانک لیا کرو، اسی سے انشاء اللہ دانے بھی موقوف ہو جائیں گے، قے اور پیٹ کی خرابی کو بھی یہی نسخہ مفید ثابت ہو گا۔

بچہ پیدا ہونے سے پہلے بجائے ناریلی و مصری کے اگر اسی کا استعمال رکھو تو بچہ بہت تند رست رہے گا، یہ شکایتیں نہ ہوں گی، کڑوا تیل کی جگہ پر یہ دوائیں لگاؤ: کمیلہ، مردار سنگ، کافور پیس کر ناریلی کے تیل میں ملاو اور جہاں دانے ہوں وہاں لگاؤ، اگر کان کے میل کی وجہ سے کچھ شکایت ہو گئی ہو تو کان میں یہ دوائیں لگا کر خشک مہندی چھپر ک دو، فائدہ ہو گا، ایسے چھوٹے نسخے یاد رکھو، انشاء اللہ بہت کار آمد ہوں گے۔

کان کا درد

اگر کان میں درد ہو تو یہ کرو:

پہلے سکھ درشن کی پتی کا عرق نکال کر گرم کر کے کان میں ڈال دو، اس سے کم نہ ہو تو ماش کی پتی کا عرق ڈالو، اگر یہ وقت پر موجود نہ ہو تو پان بنگلہ ہو یا دسی اس میں لوگنگ، سیاہ مرچ تمبا کو منہ سے چبایک کپڑے میں لے کر کان میں چھوڑ دو، اگر سردی سے درد پیدا ہو گیا ہو تو اجوائیں بھی شامل کرو، اگر ریاحی ہو تو سونف منہ سے کچل کر ڈالنا مفید ہے اگر زکام کا درد ہے اور پک ہو شیار ہے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے تو یہ علاج بہت مفید ہے۔ گل بفشه یا بفشه جوش کر کے اس طرح سے بھپارہ دو، کہ کان کے اندر اچھی طرح بھاپ پہنچتی رہے اور خوب بند رکھو کہ ہوانہ لگے، دیر تک اس پر کان رکھے رہو، جب بھاپ کم ہو جائے تو ہٹالو، مگر فوراً بھول دو، جب پسینہ آیا ہوا خشک ہو جائے تب کھولو، لیکن اس وقت بھی ہوا سے احتیاط رکھو، شبنم سے بھی بچاؤ، انشاء اللہ بہت جلد شکایت جاتی رہے گی، اگر تین روز ایسا ہی کرو تو بالکل شکایت نہ رہے گی، تجربہ ہوا ہے۔

آنکھ کا درد

اگر آنکھیں آجائیں تو جوشاندہ پلاو اور لیپ بھی استعمال کرو،

لیپ یہ ہے: رسوت زرد ۳ گرام، ہلیلہ زرد ایک گرام، پٹھانی لودھ ایک گرام، آنبہ ہلدی ایک گرام، سفیدہ کاشغری ایک گرام، چاکسو مقتشر ایک گرام، شب یمانی بریاں ایک گرام، بزر کموکی پتی کے عرق میں پس کر باریک گولیاں بنائے، وقت پر گھس کر گرم کر کے لیپ کر دو، اگر آنکھوں میں دروز یادہ ہو تو اپیون اور زعفران چار چار گرام شامل کرلو، بہت مفید ہے۔ اگر آنکھیں گرمی سے آگئی ہیں تو امرود کی پتی باریک پس کر پھٹکری بریاں باریک کر کے پتی گرم کر کے اور پھٹکری چھڑک کر باندھ دو، فوراً انشاء اللہ درد جاتا رہے گا، اکثر سفیدہ بھی کسی کو مفید ہوتا ہے، کسی کو چاکسو۔

گھٹی

گل بفشه ایک گرام، بادیاں ایک گرام، بخ کاسنی ایک گرام، برگ گاؤزبان ایک گرام، مویز منقی ایک گرام، انجیر والا یتی ایک گرام، اصل السوس مقتشر ایک گرام، گل سرخ ایک گرام، تخم خبازی ایک گرام، سپستاں ایک گرام، عناب والا یتی ایک گرام، منڈی ایک گرام، برگ سنائے مکی ایک گرام، جوش کر کے خیرہ بفشه (چھ گرام) میں ملا کر خود پینا چاہیے اور بچہ کو بھی دینا مفید ہے۔ بچہ کو گھٹی پلاتے وقت اس میں نصف مغز بدام ٹھس کر ملا دو۔

پیٹ کا درد

پودینہ خشک، ۲ گرام۔ بادیان، ۲ گرام۔ الائچی سفید، دو گرام، نمک سیاہ، ۲ گرام، پانی میں پیس کر پلاو۔ اگر دست بھی آتے ہوں تو ان میں تیزپات ملا کر جوش دے کر پلاو، اگر زکام ہو اور پیٹ میں بلکاڑ ہو تو یہ دوا دو: گل بخشہ، ۲ گرام۔ بادیان، ۲ گرام۔ بخش کاسنی، ۲ گرام۔ برگ گاؤ زبان ۲ گرام۔ مویز منقی ۲ گرام جوش دے کر ایک گرام شربت بخشہ ملا کر پلاو۔ اگر متلی ہو تو بخوبی نعنائی ملا کر پلا دو۔

پیش

اگر پیش ہو اور آؤں بھی آتی ہو تو یہ دوا دو: لعاب برگ گاؤ زبان ایک گرام، لعاب ریشه خطمی ایک گرام، لعاب اسمغول مسلم گرفتہ ایک گرام، اگر خون آتا ہو تو اس نسبت میں شیر گلنار فارسی زیادہ کب دو، اگر پاخانہ ملین اور بار بار ہوتا ہو اور پچھے کی کمزوری بڑھتی جاتی ہو تو عود غرقی ایک گرام، اصل بادیان ایک گرام، زیرہ سفید ایک گرام، جوش دے کر اس میں زہر مہرہ خطائی ٹھس کر ملا دو، اور دن میں کئی بار پلاو بہت مفید ہے، اگر متلی ہو تو بجائے زہر مہرہ خطائی کے زرشک ہی دانہ پیس کر ملا دو۔

سوکھا

اگر لڑکا دبلا ہو گیا ہو، پا خانہ بہت آتا ہوا وہ پھول اپھول اسا ہو اور منہ میں کھیاں بھی لگتی ہوں تو یہ علامت سوکھے کی بیماری کی ہے، بچوں کو اکثر ہو جاتی ہے۔ پہلائی جو بھی بتا چکی ہوں پلا کر دیکھو، اگر اس مرض کی ابتداء ہے تو انشاء اللہ فائدہ ہو گا، اگر نہ ہو تو گول کا دودھ اور دودھیا کھا اس میں ملا کر پلاو، اگر چالیس روز استعمال کرو گی تو انشاء اللہ پھر شکایت نہ رہ جائے گی، بارہ تجربہ کیا گیا ہے، یہ بھی سن لو کہ یہ عارضہ اکثر اور کار دودھ پلانے سے ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ مال کا دودھ بچے کے لیے اکسیر ہے یہ مرض بہت خطرناک ہوتا ہے، بچہ سوکھتا چلا جاتا ہے، مرض بڑھتا جاتا ہے، آخر کار کام تمام ہو جاتا ہے۔

پسلی اور سینہ

اکثر بچوں کو پسلی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اسی سے نمونیہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی جلد خبر لینا چاہیے۔ اگر بچہ کی سانس ناک سے لینے میں پھولتی ہو اور پسلی میں گڈھا پڑ جاتا ہو تو فوراً آپنگ اور انڈے کا تیل لگا دو، یا الیوالا گا کر بنگلہ پان گرم کر کے باندھ دو، الیوے کا لیپ بھی گرم کردا اکثر تھوڑی شکایت میں پیاز بھی نفع بخش ہے اگر سینہ بھی جکڑا ہو اور پسلی کی شکایت بھی ہو، یہاں تک کہ نمونیہ کا پورا اثر ہو تو یہ

دوا کرو: مصطلی روئی چھ گرام، با چھڑ ۲ گرام، موم خالص چھ گرام، مفر
بادام، اعدو، روغن گل ۲۳ گرام۔ مصطلی اور با چھڑ کو باریک کر کے
بادام کو اتنا پیسو کہ تیل نکلنے لگے، پھر موم اور روغن خالص میں یہ سب
ملا کر آگ پر رکھ دو اور پھر لکڑی سے ایک جان کرلو، پھر ڈبیہ میں رکھ
دو، پسلی اور سیند میں ہاتھ گرم کر کے لگاؤ، اس طرح دن میں کئی بار لگاؤ
اور روئی کا پہل گرم کر کے رکھ دو، یہ نسخہ بہت مفید ہے، تجربہ ہوتا رہتا
ہے۔ رائی کا پلاسٹر بھی بہت مفید ہے، مگر یہ بچے برداشت نہیں کر سکتے،
یہ بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی مفید ہے۔

قبض

اگر پیٹ میں اپھار ہو، پاخانہ نہ آتا ہو، اور بخار بھی ہو تو یہ سمجھ لو
کہ پیٹ کی تکلیف سے بخار آگیا تو کشر آئل پلا دو، دو ایک پاخانہ
کے ہونے سے یہ تکلیف رفع ہو جائے گی، اگر وقت پنیس ہے تو مکوئے
خشک، پودینہ خشک، نمک سیاہ (سب تین تین گرام) جوش دے کر
پلاو اس سے پاخانہ ہو جائے گا، یاد ہرا کر دو، پختے کی دال بریاں،
بایرنگ کی بھوی، نمک سیاہ پیس کر دہرا کر دو، جلد خبرلو، کیونکہ اکثر قبض
سے پسلی کی شکایت ہو جاتی ہے اور کبھی ٹھنڈک سے بھی، اگر یہ نسخہ تیار
رکھو تو وقت پر وقت نہ ہو: چھوٹی ہٹر، ۲۵۰ گرام۔ پودینہ ۱۲۵ گرام،

ادرک ۱۲۵ اگرام، ہینگ ۰ اگرام، نمک سیاہ ۶۰ اگرام، سہا گہ بربیاں ۵۰ اگرام، ان کو جوش دے لو کہ ہٹر نرم ہو جائے پانی اس قدر ڈالو کہ ان میں جذب ہو جائے باقی نہ رہے؛ جب یہ خشک ہو جائیں پھر لیموں کے عرق میں ڈال کر کسی ہانڈی میں بھرلو، ضرورت پر تم بھی کھاؤ اور بچہ کو بھی ہاتھ سے مل کر کھلاؤ۔ قبض نہ رہے گا، اگر پھر وند بھی لگ جائے تو کوئی ہرج نہیں، کھاتی رہو، اگر دھوپ میں رکھ دو تو اثر کم نہ ہوگا۔ یہ نسخہ بھی تیار رکھو مفید ہے: عرق ادرک ۱۲۵ اگرام، عرق پودینہ ۱۲۵ گرام، عرق لیموں ۱۲۵ اگرام، چاروں نمک جو مشہور ہیں یا رہ بارہ گرام ملا کر بوتل میں رکھ دو، کھانے کے بعد ایک چھوٹا چچہ بھی کبھی ضرورت پر دے دیا کرو لیکن کسی چیز کا عادی نہ ہو۔

دست و قے

ان بچوں کے لیے یہ بھی مفید ہے، جن کو قے بھی آتی ہوا اور پاخانہ بھی، یہ چٹکی بنایا کر رکھ لو: بنیں لوچین کبود، چار گرام، دانہ ہیل خورد، ۳ گرام۔ زرد بناو، ۳ گرام۔ پوست زرد ترنخ، ۳ گرام، گل سرخ، ۳ گرام۔ بادیاں، ۳ گرام۔ زیرہ سفید ۳ گرام، نمک طعام، ۳ گرام۔ دانہ ہیل کلاں، ۳ گرام۔ مصطگی روی، ۳ گرام۔ زرشک، ۳ گرام۔ پہیدانہ، ۳ گرام۔ یہ سب باریک پیس کر چٹکی بنایا کر رکھ لو، بچوں کو

ضرورت پر دیتی رہو۔

اگر دست بھی ہیں، خون اور آؤں بھی ہے تو یہ دوا کرو:
 آملہ خشک، دھنیا خشک، زیرہ سفید، بادیان سب برابر لے کر
 نصف کچا اور نصف بریاں کر کے باریک پیس لو، تھوڑا تھوڑا دیتی رہو،
 اگر خون اور آؤں بہت ہے تو یہ علاج انشاء اللہ مفید ہو گا، احتیاط آیا بھی
 نہ کر رکھنا بھی ضروری ہے۔

پتھری

خدا نخواستہ اگر پتھری کی شکایت ہے تو علاج جلد کرو، یہ مرض
 بہت تکلیف دہ ہے، اس کے لیے آسان اور مجرب نسخہ یہ ہے گیندے
 کی پتی کا عرق، سیاہ مرچ پیس کر ملا کر پلاتی رہو، سفید الائچی کا استعمال
 رکھو، بڑوں کے لیے زیادہ تعداد ادویہ کی ضرورت ہے۔ عرق ۶۰ گرام،
 سیاہ مرچ ۶۰ گرام۔

باب ششم

مہمان کی خاطر مدارات

مہمان کا آنا خوش نصیبی ہے

حدیث شریف میں مہمان کی خدمت اور اس کے اکرام کی بہت تاکید آئی ہے اس لیے جب مہمان تمہارے گھر آئے تو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ خوش نصیب ہی کے یہاں مہمان آتے ہیں، ان پر کھانے کی تنگی نہ کرو، وہ تمہارے حصہ سے نہیں کھائیں گے، تمہارے کھانے میں کمی نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ میں اور زیادہ دے گا، مہمان کو اپنے سے زیادہ بہتر کھلاؤ، کبھی دل تنگ نہ ہو، ان کے لیے اچھی جگہ جہاں آرام سے رہ سکیں، انھیں دکھا کرو ہاں چار پائی بستر ٹھیک سے لگا دو، ان کے چائے اور ناشتا کی فکر رکھو کہ وقت پر پہونچے، ان کی آتے جاتے خبر رکھو کہ کوئی اور ضرورت تو نہیں ہے، جب وہ جانے لگیں تو کچھ تخفہ بھی ساتھ کر دو، اور اگر تمہارے یہاں زیادہ دن لٹھرنا چاہیں تو ان کے ساتھ وہی معاملہ رکھو جو دون کے مہمان کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ

رہنا سمجھ کر بے پرواہ نہ ہو جاؤ بلکہ اور زیادہ خاطر کرو، ان کی کل ضرورتیں اپنی ضرورتیں سمجھو، ہر وقت ان سے خوش ہو کر بولو اگر وہ اپنا انتظام علیحدہ کریں تو تم ان کے کاموں میں مشورہ دیتی رہو اگر وہ نوکر نہیں رکھ سکتیں تو تم اپنی ماماوں پر ان کی خدمت کے لیے زور ڈالتی رہو، اگر وہ کام کرنے سے آنکھ چڑائیں تو تم آپ کرو، اور انھیں کے سامنے خوب سخت سست کہو، اگر وہ خود اپنے ہاتھوں سے پکاتی ہوں تو ماماوں کے مقابل بیٹھ کر پکانا منظور نہ کرو کہ انھیں وہ ذلیل سمجھیں بلکہ اپنے چوپھے پر کھوادو، اور اپنی ہانڈی اتار لو، پھر آئندہ ماماً ہیں ان کی عزت کریں گی، اس وقت کے نوکروں کا دستور ہے کہ اپنے گھر والوں کے سواد و سروں کی خدمت نہیں کر سکتے۔

خاطر مدارات

ہر وقت ان کی مدد کرو، کھانا اپنے دستر خوان پر کھلاو، اگر وہ کسی وجہ سے اس کو گوارانہ کریں تو جوئی چیز تھا رے یہاں پکے برابر دیتی رہو اور اس کی کسی کو خبر نہ ہو، ان کی کسی بات پر اعتراض نہ کرو، اگرچہ تھا رے مزاج کے خلاف ہو، اگر کچھ فرض دو تو تقاضہ نہ کرو، خود دے دیں تو لے لو، کوئی بات ایسی نہ کہو کہ ان کو نا گوار ہو کہ وہ سمجھیں کہ ہمارا رہنا انھیں دو بھر ہے، کوئی بات اگر کہو بھی تو نوکروں کے سامنے نہ

کہو، وہ دل کے چھوٹے ہوتے ہیں، موقع بے موقع کہہ ڈالتے ہیں۔

ماماؤں سے بر تاو

تخصیص معلوم ہے کہ ماماً نئیں بڑی مشکل سے ملتی ہیں، ابھی تو خیر، آگے چل کر اور بھی دشواری سے ملیں گی۔ اگر ملیں بھی توروز کے یہی جھگڑے رہیں گے۔ لڑ بھڑ کر چل دیں گی، اس لیے دل جلانے سے ہاتھ کا جانا بہتر ہے، تم خود ہی کام کرنے کی عادت ڈالو، یا ماماً نئیں رکھو تو ان سے زیادہ بے تکلفی نہ کرو ورنہ مقابلہ کرنے لگیں گی، ان کا دل ہاتھ میں لے لو اور نرمی سے کام لو، ہر قصور پر لعنت ملامت نہ کرو، کچھ کچھ تم بھی مدد دیتی رہو، ضرورت کے وقت بے کاز کام نہ لو۔ جب وقت پر کام نہ ہوگا، تم برا کھوگی تو اسے تخصیص کو وہ تھپڑ لگائیں گی، پھر تمہاری کیا رہ جائے گی۔ ہر وقت عیب جوئی نہ کرو، اگر تخصیص منظور ہے کہ کام بھی وقت پر ہوتا رہے اور کوئی چیز بھی ضائع نہ ہو تو نگرانی کے لیے موقع پر بیٹھ جاؤ، کچھ ہاندی بھی دیکھتی جاؤ مگر یہ ظاہر نہ ہو کہ تم اس غرض سے بیٹھی ہو کہ یہ کھانے لیں، بلکہ یہ خیال ہو کہ شاید ہاتھ بٹانے کے لیے بیٹھی ہو، نمک وغیرہ تم بھی چکھتی رہو کہ شاید تمہارے مردوں کے نزدیک ٹھیک نہ ہو، اپنے مردوں کی ہاندی تم خود پکاؤ، پیچھے بھی تاکید کر چکی ہوں، جب تم دیکھ بھال کرتی رہو گی تو اس

کے چلنے پر بھی تم کو تکلیف نہ ہوگی اور تم بلا تکلف کام کر سکتی ہو، ماماڈ کو ماہ بہ ماہ تنخواہ دیتی رہو اور جنس بھی تلواتی رہو، غرض یہ کہ ان نا بار سر پر نہ رکھو، فرض کرو کہ اگر وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئیں بی بی ہم نہ رہیں گے تو اس وقت تمھیں سب یکمشت دینا پڑے گا، اگر وقت پر نہ دے سکیں تو سر نیچا ہوگا اور یہ جلد جلد کہتی پھریں گی۔ اس وقت کی ماماڈ کا عام قاعدہ ہے کہ یہ کہہ کر ڈراتی ہیں کہ ہمارا حساب کرو وہم چلنے کا نیں، یہ سمجھ کر کہ اس وقت یہ دے سکتی نہیں، اگر دو تو فوراً ٹھہر جائیں گی۔ اس کا تجربہ میں کرچکی ہوں۔ معاملہ صاف رکھو کہ وقت پر تمھیں تکلیف نہ ہو اور ہر چیز پکانے کی عادت باقی رکھو۔

خود کام کرنے کی عادت ڈالو

بعض یہیاں کہتی ہیں کہ جب خدا دے توزیع کیوں اٹھائیں، میں پوچھتی ہوں کہ اگر مانند ملے اور تمھیں بھی پکانا آئے تو کیا کرو گی، ناچار کرنا پڑے گا۔ اگر پکایا بھی اور خواہش کے موافق نہ ہوا، تو اس وقت ذلیل ہوگی۔ تم تو کھا سکتی ہو مگر مرد کیونکر برداشت کر سکیں گے، پھر سوائے ندامت کے اور کیا ہوگا۔ اس لیے ہر کام کی عادت ڈالنا چاہیے، کسی وقت بیکار نہ رہو، ہر طرح سے مردوں کو آرام پہنچاتی رہو۔ اکثر بے کار رہنے والوں کو دیکھا ہے سات آٹھ بجے تک سوتی

رہتی ہیں، اگر کوئی کام کرنے والا ہوا تو خیر و رنہ اکثر مرد خود کر لیتے ہیں، کس قدر شرم کی بات ہے کہ بی بی صاحبہ لیٹی یا بیٹھی ہیں اور مرد پریشان پھرتے ہیں۔ اے بچو! ایسی نالائق طبیعت نہ رکھو، اپنا گھر سمجھو، تمہارے بڑے، تمہارا ہاتھ بٹانے والے کب تک تمہارا ساتھ دیں گے، وہ تمھیں آرام پہوچاہ کے، اب تم انھیں آرام پہوچاؤ، بہو یہیاں اسی دن کے لیے ہوتی ہیں، تم نہ کرو گی تو کوئی دوسرا کرنے آئے گا؟ اب تم اپنا گھر دیکھو، ماماوں کی مدد کرنے سے کچھ فوکرنہ ہو جاؤ گی، تمہاری وہی عزت رہے گی اگر تمہاری آمدنی میں اتنی گنجائش ہے کہ تم ماما رکھ سکتی ہو تو ضرور رکھو، ورنہ یہ امارت چل نہیں سکتی کہ ماما ضرور ہو، ماہ بہ ماہ تنخواہ دے سکو یا نادے سکو۔ منتظم یہیاں خود کرتی ہیں اور ماما رکھ کر پریشان ہونا نہیں چاہتیں۔ یہ یاد رہے کہ ماماوں سے بھی آرام ہے تکلیف بھی ہے، اسی وجہ سے وہ خود کام کرنا پسند کرتی ہیں۔ اگر تم خود کپڑے سیوگی، لڑکوں کو تم سنبھا لوگی، کھانا تم پکاؤ گی تو تمہارا کس قدر روپیہ بچے گا اور کتنے کام نکلیں گے اور جو خوبیاں حاصل ہوں گی تم خود سمجھو گی، مرد تمھیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، تمھیں کام کرتے دیکھ کر پھر تمہاری اولاد بھی اور گھر کے جتنے افراد شرکت میں ہیں وہ بھی مدد دیں گے، ہر کام آسان ہو جائے گا، وہ بھی جو ہوشیار نہ ہوں گے ہو جائیں گے۔ پھر تمھیں الگ سکھانے کی ضرورت نہ رہے گی۔

ضروری ہدایات

کھانا پکانے کی جگہ صاف سترھی رکھو، برتن ٹھیک طرح رکھو،
 ماماوں پر نہ چھوڑو، اور نہ کسی اور پر۔ کھانا مزیدار ہو، دونوں وقت ایک
 ہی چیز نہ پکاؤ، آب و نمک ٹھیک رہے۔ کھانا بیٹھنے اور سونے کی جگہ نہ
 کھاؤ، کھانے کی جگہ الگ ہو، کھانا ایک ہی دستر خوان پر کھاؤ، اگر تہنا
 کھانے کی عادی ہو تو سب کو کھلا کر کھاؤ کہ شاید کوئی چیز کم نہ پڑے کہ
 شرمندہ ہونا پڑے، مردوں کے کھانے میں کئی قسم کی چیزیں ہوں،
 اچار، چینی ضرور ہوں، پان وغیرہ ٹھیک رکھو کہ وقت پر تکلیف نہ ہو،
 کھانا تم خود نکالو، ماماوں سے نہ نکلواؤ، یہ بہت بد سلیقگی ہے اور نقصان
 بھی، کھانا دے دلا کر جو کچھ دینا ہو ماماوں کو دے دو، باقی جو بچ جائے
 احتیاط سے رکھو۔ جب تک کھانا تیار نہ ہو، گھر سے کہیں نہ جاؤ، نہ کسی
 کام میں مشغول ہو کہ بے فکر ہو جاؤ کہ پکی پکائی ہانڈی جل جائے یا
 شور بہ زیادہ ہو جائے کہ مردوں کے کھانے کے وقت پھر کچھ نہ
 ہو سکے، بد مزگی سے کھانا پڑے۔ گھر میں زیادہ رہو، بے موقع ادھر ادھر
 نہ پھرو، جب بالکل اطمینان ہو تو کچھ مفہوم نہیں۔ جب جنس منگاؤ تو
 دوسروں سے نرخ دریافت کرلو، اسی حساب سے ٹھوا کر رکھو۔ لگی بغیر
 صاف کیے استعمال میں نہ لاؤ کہ شاید کوئی چیز ہو تو کی کرانی محنت

اکارت ہو، اور یوں برکت بھی نہیں ہوتی، کھا اور کھی بغیر صاف کے کام میں لانے سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور بد سلیقگی بھی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو ما ماوں پر کام نہ چھوڑو، خود کرو اگر نقصان ہوگا تو تمہارا ہوگا، تمہارا دل دکھے گا، دوسرے کا نہیں، اکثر پیہیاں چار پائی پر بیٹھے بیٹھے با تین بنا تی رہتی ہیں، گھر کی خبر نہیں کہ کیا پکتا ہے اور کیا نہیں، ائمہ سید ہے جو مل گیا کھالیا، نہ ان کو مردوں کی پرواہ نہ اپنی خبراً اور نہ مہمان کی فکر، اپنی خبر نہ ہو، مگر یہ تو سمجھو کہ مرد شادی کرتے ہیں آرام کے لیے یا تکلیف اٹھانے کے لیے، جب انھیں اتنا بھی آرام نہ پہنچا تو کیا فائدہ، اگر تم میری ان نصیحتوں پر عمل کرو گی، تو یہ دیکھ کر تمہاری ماما کیں چوری سینہ زوری سے بچپیں گی، دل میں تمہارا خوف رہے گا، تمہاری حکم عدوی نہ کر سکیں گی۔ اور ٹھیک سے کام کریں گی۔

اب میں وہ نصیحتیں کرنا چاہتی ہوں جو تمھیں میکہ وسراں اور دوسرے موقعوں پر کام دیں گی۔ اگر پورا عمل کرو گی تو عجب تاشیر دیکھو

گی انشا اللہ۔

باب ہفتہ

چند نصیحتیں

ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہو، اس کی رضا مندی چاہو،
 اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کہو، نہ کرو، ناراضی کی بات سے تو بے
 کرو، نماز دل لگا کر وقت پر ادا کرو، کلام مجید روز پڑھتی رہو، غلطیاں نہ
 ہونے پائیں، بھولا ہوا یاد کر لیا کرو، جھوٹ نہ بولو، جو بات کہو سچ
 کہو، اگر کسی بات کا خوف ہو وہ بات نہ کہو، آدمی سے نہ ڈرو، اللہ سے
 ڈرو۔ انسان سوائے اس کے کہ خاموش ہو گا اور کیا کر سکتا ہے، اللہ کی
 پکڑ سخت ہے مگر وہ رحیم بھی ہے۔ ہر ایک سے زمی کے ساتھ پیش آؤ،
 کسی کی برائی نہ کرو، نہ منھ پر نہ پیچھے، منھ پر کہنے سے رنج ہوتا ہے، اور
 پیچھے پیچھے کہنا غیبت ہے جو بڑا گناہ ہے اپنے عیوب پر نظر رکھو اور قسم
 کھانے کی عادت نہ ڈالو، چکے چکے چار کے سامنے باشیں نہ کرو،
 بدگمانی ہوگی، اگرچہ اچھی ہی بات ہو، دو شخص جب برابر ہوں اور تم
 کچھ دینا چاہو تو برابر دو، کسی کو زیادہ کسی کو کم دینے سے تم بے وقوف

کہلاوگی، اور کم حصہ والے کی بکی ہوگی۔ دو شخصوں کے سامنے ان میں ایک کی تعریف نہ کرو، خاطر مدارات برابر کرو، کسی کی دل شکنی نہ کرو، غیروں سے بہت نہ ملو، اور نہ ان سے کچھ امید رکھو، اگر تمہارے خیال کے مطابق نہ ہو تو تم کو ملاں ہو گا۔

کہاں رہتی ہے وہ قیمت جہاں چینی میں بال آیا
جس سے محبت کرو اللہ کی خوشی کے لیے کرو اس میں دنیا اور آخرت
دونوں کی بھلائی ہے۔

صلہِ حرمی

اپنے رشتہ داروں سے محبت اور تعلق پیدا کرو، اگر وہ دشمنی بھی کریں تو تم دوستی کرتی رہو، جو تمہارے ساتھ براٹی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرتی رہو، دوستوں سے توسب ہی دوستی رکھتے ہیں، لیکن دشمنوں کے ساتھ بھلائی میں اللہ کی خوشی ہے۔ اپنے عزیزوں کی مدد کرو، ان کا ہاتھ بٹاتی رہو، وقت پر قرض دو، قرض دے کر احسان نہ رکھو، کبھی تقاضا نہ کرو، اگر وہ کسی بات پر بگڑ جائیں تو تم نرم ہو جاؤ، ان کے غصہ کو دفع کرو، بری بات کوٹال دو، بخیل سے کبھی قرض نہ لو، بخیل کا دل چھوٹا ہوتا ہے، وقت پر شخصیں شرمندہ ہونا پڑے گا، بلکہ وہ جو چیز ما نگے دے سکتی ہو تو دے دو، وہ تھوڑے کو بہت سمجھے گا اور تمہارا احسان

مانے گا۔

امیروں سے بہت نہ ملو، بے تکلفی میں وہ بات نہیں رہتی، بغیر ضروری کام کے نہ جایا کرو، اگر جاؤ تو کوئی ایسی بات نہ کرو جو ان کے مزاج کے خلاف ہو، ادھر ادھر نہ دیکھتی رہو، کسی بات پر تعجب کا اظہار نہ کرو، نہایت تمیز سے کھانا کھاؤ، جو چیز تمہارے آگے کرکی ہو وہ کھاؤ۔ دوسری طرف ہاتھ نہ بڑھاو، کھاتے وقت بہت باقیں نہ کرو، چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ نہ کھلاو، پان کی پیک منھ میں لے کر بات نہ کرو۔ کہیں جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، ایک ہوشیار عورت کو ضرور ساتھ لے جاؤ، تھا کہیں نہ جاؤ، پاس ہو یادو، کسی کے کپڑے پہن کرنے جاؤ جو اللہ تعالیٰ نہیں دے وہی بہتر ہے، مال مستعار کے استعمال سے کبھی نقصان بھی ہوتا ہے اور صدمہ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔

آمد فی سے زیادہ خرچ نہ کرو

اگر تمہاری آمد فی تین سور و پیہ ہے اور تم چار سو خرچ کرو گی تو آئندہ تھیس دوسرو پے میں کرنا پڑے گا، ضرور تیں وہی رہیں گی رو پیہ کم ہو جائے گا، پھر اطمینان سے نہیں کھا پہن سکتیں، اور یہ بد نظمی بھی کہلاتی ہے، جو کرو اس کا انجام سوچ لو، یہ حدیث یاد رکھو: ”نہ یہ باد ہوا وہ آدمی جس نے اپنی حقیقت پہچانی۔“

جو کام کرو مشورہ سے کرو، پھر الزام کا موقع نہ رہے گا۔ جو کرو اپنی حیثیت کے موافق کرو، کبھی پریشان نہ ہوگی، آج کل دستور اسراف کا ہے، اگر کوئی منتظم حیثیت کے مطابق کرتا ہے تو وہ بخیل کھلاتا ہے اس بے جا خرچ سے کیا حاصل کہ وقت پر دوسروں کا محتاج ہو جائے، اور ہر وقت پریشانی میں کئے، اگر اللہ نے تسمیں خواہش سے زیادہ دیا ہے تو تم اس کی خوشی کے کام کرو کہ اس کا اجر تسمیں آخرت میں ملے، بے جا اڑا دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جو تسمیں میسر آئے وہ تم اپنے کام سے بچا کر اپنے ان عزیزوں پر خرچ کرو جو اس کے مستحق ہیں کہ اللہ بھی خوش ہوا اور وہ بھی۔ اس ہوشیاری سے خرچ کرو کہ نہ تم قرض دار ہو، نہ مردوں کو تکلیف دو، ان سے فرمائش نہ کرتی رہو، جو کچھ تسمیں دیں، غیرممت جانو، انھیں آرام پہنچاتی رہو۔

حسن سلوک اور ہارون رشید کا واقعہ

اپنے اور اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں سے نیک برتاو رکھو، ان کی راحت و تکلیف میں شریک رہو، ان کی خوشی اپنی خوشی، ان کا غم اپنا غم سمجھو، کھلے چھپے ان کی مدد کرو، ہر ایک سے نیکی کرو اللہ تمہارے ساتھ بھی اپنا فضل و کرم کرے گا، یہ غلط ہے ”نیکی بر باد گناہ لازم“ کیا تم نے کلام مجید میں نہیں دیکھا:

هَلْ جَزَاءُ الْأَلْحَسَانِ إِلَّا الْأَلْحَسَانُ "نیکی کا بدلہ نیکی ہے،" مگر جب کہ اس میں ریانہ ہو۔ ریا سے بچو، کسی کی کم حیثیت پر فسونہیں، کسی کا دل نہ توڑو، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ کسی کی اگر مہمان ہو تو اس کے کھانے کی برائی نہ کرو، اگرچہ بے نمک کی دال ہی ہو، اسے نعمت سمجھ کر کھاؤ، کھاتے وقت منہنہ بناؤ، کھا کر نام و هنر نا برداعیب ہے۔ معلوم نہیں کس شوق میں اس نے پکایا ہو، اس کا احسان مانو اور شکریہ ادا کرو۔

خلیفہ ہارون رشید کا قصہ تم نے سنا ہوگا کہ ایک اعرابی پیاس کی شدت سے ایک نہر پر پہنچا اور پانی پیا، اسے مزید اس سمجھ کر مشک میں بھر لیا کہ ہارون رشید کی خدمت میں پیش کروں گا اور بہت سا انعام پاؤں گا۔ یہ سوچ کر بادشاہ کی خدمت میں لایا، وہ دربار میں تھے، ویکھتے ہی حقیقت سمجھ گئے کسی وزیر سے کہا کہ اس کو رکھ لو، میں خود پیوں گا، دوسرا نہ چھپے۔ بادشاہ بہت رحم دل تھے، یہ سمجھے کہ دوسرا آدمی مزاچکھ کر اسے کچھ کہہ دے گا تو اسے ملاں ہو گا اور اسے بہت سا انعام دے کر رخصت کیا۔ کسی کی چیز کو برا کہنے سے دل ٹوٹ جاتا ہے، کسی دوسرے کے گھر میں اپنی حکومت نہ جتا، اور نہ خود سے انتظام میں لگ جاؤ بیجا گلہ شکایت نہ کرو کہ دل ٹوٹ جائے، لڑکوں کی لڑائی کو جھگڑوں میں نہ بدلو، نوکروں کے کہنے سننے میں نہ آؤ، اس سے ناتفاقی پیدا ہو جاتی ہے پھر لڑائی کا سامان ہو جاتا ہے، بروقت ایسا روک دو کہ پھر وہ کہنے کا

موقع نہ پائیں، خود سن کر بیال دو، زیادہ جھگڑے سے بھی نقصان ہے۔
 جو چیز تھیں مل جائے وہ ہزار میں اچھی سمجھو، شاید تمہارے حق میں
 یہی بہتر ہو، کسی سے حسد نہ کرو، حسد والا کبھی پھولتا پھلتا نہیں ہے، اللہ
 جس کو دینا چاہتا ہے ضرور دیتا ہے، تمہارے حسد کرنے سے روک نہ
 لے گا، حسد کرنے والا ذمیل ہوتا ہے، یہ مرض لا علاج ہے، اگر علاج ہے
 تو یہ ہے کہ جس کسی کے نفع سے تھیں تکلیف یا نقصان پہنچتا ہواں
 کو نفع پہنچانے کی کوشش کرو اور دعا کرو کہ خدا یا اسے وہ چیز دے جو
 مجھ سے بہتر ہو، اگر تم سے زیادہ کوئی خوبی اس میں ہو تو نہایت خوشی
 سے اس کی تعریف دوسروں سے کرو، چاروں میں پھر یہ مرض تم اپنے
 اندر نہ پاؤ گی۔ حرص سے پرہیز کرو۔ رنگ جیسے برتن کو کھالیتا ہے اسی
 طرح حرص ایمان کو، اپنے سے کمتر کو دیکھو، پھر تھیں اللہ سے شکایت
 نہ ہوگی جو اللہ نے دیا ہے اس پرشاکر رہو، جس سے ملو سچے دل سے
 ملو، ہر موقع پر دوست رکھو، اللہ سے ڈرو، سب اسی کے بندے ہیں، جسے
 چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت، بلکہ اگر تم مقدور رکھتی ہو تو اس وقت
 دوسروں کی مدد کرو، اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا، بے کسوں پر رحم کرو،
 اللہ تم پر رحم کرے گا۔

کرو مہربانی تم اہل زمیں پر
 خدا مہرباں ہو گا عرش بریں پر

حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ہی عقل مندی ہے

ہم لوگوں میں یہ عیب پیدا ہو گیا ہے کہ لڑکی کے جھیز میں اگر ہوا تو خیر، ورنہ قرض لے کر، تکلیف اٹھا کر، جو امیر دیتے ہیں وہی غرباء و مساکین دیتے ہیں، آخر کار زمانہ کے دست برداشتے وہ چیزیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمارے عقل ہوا اور لڑکی کے آرام کا خیال ہو تو بجائے اس سامان کے وہ انتظام کریں کہ جس سے اس کو اور اس کی اولاد کو فائدہ ہوئے، جاتے ہی وہ محتاج اور بے دست و پا ہو کرنہ بیٹھ جائے، کسی کا منہنہ نہ تک، اگر مائیں کرنا چاہیں تو ہمیشہ کر سکتی ہیں، ہزار طریقہ سے دے سکتی ہیں، مگر یہ دنیاداری، رسموں کی پابندی ہم کیوں کریں، اسی نے تو ہمیں اس حالت کو پہنچایا کہ ہر طرح کی مصیبتوں میں بیتلہ ہیں، فکروں نے ہمیں چور کر دیا، افلاس چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے مگر جب بھی ہم اپنی حالت کو بدلا نہیں چاہتے، وہ طریقہ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مصیبتوں جس کے باعث ہم سے دور ہو جائیں لیکن ہم مجبور ہیں، دنیا کی شرم غالب ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر کچھ نہیں، محض دل کے چاہنے پر عمل نہ کرنا چاہیے بلکہ جس سے ہمیں آرام پہنچے، ہمارا مالک جس کے سبب ہم سے خوش ہو وہ ہم کریں، کس کے برا بھلا کہنے کی پرواہ نہ ہو، اگلے بزرگوں میں یہ باتیں نہ تھیں،

جتنی حیثیت ہوتی تھی اسی کے موافق کرتے تھے، کیا انھیں اپنی اولاد سے محبت نہ تھی، ہم تکلیف اٹھا کر کرتے ہیں، وہ آرام سے کر سکتے تھے۔ اگر یہ کہیں کہ انھیں عقل نہ تھی تو کیا، ہم جو کرتے ہیں، یہ عقل ہے ہرگز نہیں، یہ سراسر بے وقوف بلکہ شامت ہے ہم اتنا بھی نہ سمجھیں کہ آج تو ہم کرتے ہیں کل اگر پچھنہ کر سکیں تو پھر کیا ہو گا۔ خیر قصہ مختصر جہاں تک ممکن ہو یہ خیالات دل سے نکالو اور اپنے بزرگوں کے قدم پر قدم رکھو، ان سے بڑھ کر نہ چلو کہ گر پڑو، ان کی باتیں تسلیم کرو، وہ تجربہ کار ہیں۔

معیوب باتیں

اپنے بڑوں سے اوپنجی جگہ نہ بیٹھو کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے
بھول کر کوئی بڑی بات نہ کہو، بڑا بول اللہ کو پسند نہیں۔
مت ہنسو دیکھ کے تقدیر کو پلٹئے کھاتے
دیر لگتی نہیں تقدیر کو پلٹئے کھاتے
دنیا کی دو روزہ رونق پر نہ اتراؤ، مال، اولاد، جگہ، زمین، گھر،
سب اللہ کا ہے، تمھارا کچھ نہیں، وہ جسے چاہے دے، جس سے چاہے
لے، تمھارا کچھ زور نہیں، کسی حاجت مند کا دل نہ توڑو، جو تم سے اپنا
حال کہے دل لگا کر سنو اور اپنے دل پر ہاتھ رکھو، اپنے پاس سے کسی کو

محروم نہ پھیرو۔

خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر
نہ ہو درد کی چوت جس کے جگر پر

کسی سے سخت کلامی کرنا، چھوٹا ہو یا بڑا، بے دردی اور بد تہذیبی
ہے، بد گمانی نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، منافق نہ بنو، دینے لینے
میں کسی کو شرمندہ نہ کرو، دکھانے کے لیے اس سے زیادہ نہ دو کہ وہ شرما
جائے، ہر چیز احتیاط سے رکھو، اگر کسی کے پاس رکھو تو سمجھ بوجھ کے،
خوب اس کا اندازہ کر لو، اور اس سے کہہ دو کہ یہ اتنی ہے، مگر زیور،
برتن، روپیہ، پیسہ، کپڑے لتے ہوں تو ان کی فہرست بنالو، اگر مناسب
سمجھو تو اسے بھی فہرست بنا کر دے دو کہ وقت پر تم بے تکلف واپس
لے سکو، اپنے ہوں یا غیر سب سے معاملہ صاف رکھو، جو بات بھی کہو
وقت پر کہو، بے وقت کہنا لا حاصل ہے، دو میں ایک ضرور شرمندہ ہو جاتا
ہے۔ کسی پر اپنا ارادہ ظاہرنہ کرو، شاید نہ کر سکو، اپنے گھر کے نوکروں
سے گھر کا حال نہ کہو، اس میں ذلت ہے، نوکروں سے بے تکلف نہ ہو،
ہر وقت انھیں نہ چھیڑو کہ وہ تنگ آ کر برادر سے جواب دینے لگیں۔ کم
ظرفوں سے بچتی رہو، جو بات کہ موقع پا کر کہو۔ اگر کھانے کا ذکر ہو تو تم
کپڑوں کا تذکرہ نہ کرو کہ مثل صادق آئے ”ماروں گھٹنا چھوڑ آنکھ“۔
ایک کی بات ختم ہو جائے تو تم کہو، کسی کی بات میں دخل نہ دو، ہر ایک

کے ساتھ پنج پنج نہ کرو، یہ عورتوں کا عام دستور ہے کہ ایک کی بات دوسرے سے کہو، یہ بڑا عیب ہے، بے موقع بحث نہ کرو، شاید تشخیص منہ کی کھانا پڑے، بہت باتیں نہ کرو، بعض وقت کی بے جا بات دل کو صدمہ دیتی ہے۔ ۴

کم گفتن دکم خفتن و کم خوردان عادت بگیر

اگر یہ عادتیں رکھو گی تو آرام سے رہو گی۔ مجلس میں بینچ کر کسی کی نقل نہ کرو، پس پس کر کسی کے عیب نہ کھلو، بہت ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے، گئی گزری بات کو نہ دھراو، بھولے ہوئے قصور یاد نہ دلاو، اگر کسی سے کچھ قصور ہو جائے تو معاف کر دو، اس کا فسوس ظاہرنہ کرو، کسی چیز پر اڑنہ جاؤ کہ ہماری ہے جو اپنی کہے اسے دے دو، چاہے وہ لکھی ہی نایاب شے کیوں نہ ہو، اللہ تشخیص اس سے بہتر دے گا، گزرے ہوئے اور موجودہ غم کو دل میں جگہ نہ دو، نہ ہر وقت غمون کا ذکر کرو اللہ کی رحمت کو یاد کرو، غم کرنے سے کچھ مل نہیں جاتا، اللہ مالک ہے، جو چاہے کرے، صبر کرو، قرآن مجید میں آیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے

والوں کے ساتھ ہے

اس سے زیادہ اور کیا چاہتی ہو کہ اپنا مالک اپنے ساتھ ہو، دنیا کی خوشی اور غم دونوں فانی ہیں، آخرت کو یاد کرو، کوئی شخص اگر تمہاری

مردود و محبت یا کسی اور خیال سے تمہارا پچھہ کام کر دے تو اس کام میں
برائی نہ نکالو، اگر تھیں عادت ہو تو خود کرو، دوسرا کو منف میں تکلیف
نہ دو، ہر شخص کا احسان مانو، جس نے لوگوں کا احسان نہ مانا اس نے
اللہ کا احسان نہ مانا، جس سے پردہ کرو اچھی طرح سے کرو، صورت تو
پچھاوا اور آواز سناؤ، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، صورت کا آواز سے اندازہ
ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے اگر پردہ کرو تو اس خوبی سے کرو لہ
ملاں کا موقع نہ آئے، بری خصلتوں سے اور بری ادائیں سے بچو،
دانتوں سے ناخن کاشنا، انگلیاں توڑنا، مجلس میں انگلیاں الجھانا، سر
پیٹنا، سر ٹھوکنا، سب کے سامنے جو میں نکالنا، بات کرتے وقت ہاتھ
ملنا، سر پھیرنا، گردن موڑنا وغیرہ یہ سب بے ہودہ عادتوں میں شمار
ہیں، اپنے گھر میں کسی اجنبی کو نہ رکھو، اگر ضرور تارکھنا بھی چاہو تو ہر چیز
سے واقف نہ ہونے دو، اگر اس کا خیال نہ کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی
خوب یاد رہے کہ اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ سب کے ساتھ یہیکی اس طرح
نہ کرو کہ تم بے وقوف سمجھ کر لوٹ لی جاؤ، پھر منہ دیکھتی رہ جاؤ، بے جا
نیک مزاجی، بے محل سعادت مندی بے وقوفی میں شامل ہے۔

نوكروں سے بھی ایسی مردود نہ کرو کہ وہ لوٹیں کھائیں، حساب
برا برا لیتی رہو مگر نرمی کا معاملہ رکھو۔ بے جا سختی اچھی نہیں ہوتی اس سے
جائے فائدہ کے اکثر نقصان ہوتا ہے۔

بَابُ هَشْتَمٍ

دعا

دعا میں مانگنا خاصانِ حق کی طرزِ عادت ہے
 دعاۓ صحیح و آءِ شب کلیدِ گنج راحت ہے
 ہوئی ہیں کشوریں مفتوح خاصوں کی دعاؤں سے
 اللہ تختے گئے ہیں اولیاء کی بدوعاؤں سے

دعا میں دنیا و آخرت کی خوبیاں مضمر ہیں

اگر مصیبت سے امان چاہتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خواہش ہے تو دعا کرو، مصیبت میں کام آنے والی اور خداۓ واحد سے ملائے والی بھی دعا ہے۔ اے میری بہنو! اس نعمت سے محروم نہ رہو جو تسلکین دعا سے ہوتی ہے، وہ کسی دوائے ممکن نہیں، تم دعا مانگ کر اس کا تحریج کر سکتی ہو، تم بمحضے بتاؤ:

أَمَّنْ يُحِبُّ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْسِفُ السُّوءَ

ترجمہ: بھلا کون ہے جو مجبور و بے قرار کی دعا کو سنتا ہے

اور برائی کو دور کر دیتا ہے۔

کس کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و شنا اور بندہ کی عاجزی کا پورا پورا نقشہ ہوتا ہے، فریادِ کمزور دل سے نکلتی ہے مگر آسمان و زمین، عرشِ ولک اس سے مل جاتے ہیں، دراجابت تک سیدھی جاتی ہے، اس کی تائید میں کلامِ الٰہی دیکھو، ارشاد ہے:

وَقَالَ رَبُّكُمْ إِذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ

ترجمہ: تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔

یہ دیکھ کر اس کے حکم کی تقلیل کیوں نہ کریں، اس کے آگے ہاتھ

کیوں نہ پھیلائیں۔ اور ہم کیوں دنیا و آخرت کی خوبیوں سے محروم رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیوں سرفراز نہ ہوں۔

اے میری بہنو! جہاں تک ممکن ہو اپنی زندگی اس مبارک مشغله

میں بس کروتا کہ تمھیں مالکِ حقیقی کی خوشی اور رضا مندی حاصل ہو، اس

کے باعث تم دنیا میں بھی خوش نصیب کھلاوگی، اور آخرت میں بھی کامیاب

ہوگی، یاد رہے کہ دعا مشل بھیک مانگنے کے ہے، بھیک مانگنا ذلت ہے،

یعنی تم نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاو، یہی اللہ

تعالیٰ کو پسند ہے، دعا نہ مانگنا غرور و تکبر کی دلیل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو

نخست ناپسند ہے۔

دعا کی قبولیت کے طریقے

بندیوں اور بندوں کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور قبولیت کی امید رکھیں، زندگی میں قبول ہوئی تو خیر ورنہ آخرت کے لیے ذخیرہ رحمت بنے گی اور آخرت کی فکر دنیاوی تفکرات سے بہتر ہے۔ اس وقت ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ کاش کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا، اللہ تعالیٰ قادر ہے، جو چاہے تمھیں دے سکتا ہے، مگر جو یہاں تمھارے حق میں بہتر نہیں وہ روک رکھتا ہے، اور تم بے جانے بوجھے مایوس ہو جاتی ہو، ایسا نہ چاہیے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ تمھیں چاہتا ہے، اسی لیے وہ خلاف مصلحت کوئی کام نہیں کرتا، اسے اپنے بندہ اور بندی کی فلاج و بہبود کا خیال ہے، وہ اپنے بندوں اور بندیوں کو جو مناسب سمجھتا ہے دیتا ہے اور جو مناسب نہیں سمجھتا نہیں دیتا تو اس صورت میں رضا و تسلیم فرض ہے۔ غرض یہ کہ وہ وعدہ فرم اچکا ہے، ہر اونٹی واعلیٰ کو چاہیے کہ اسی کو پکاریں اور اسی سے مانگیں تاکہ وہ فرم انبردار جان کر خوش ہو۔ اور اس کی رحمت اور بخشش نصیب ہو۔

دعا کے ساتھ امید شرط ہے

اے میری امیدوار بہنو! جب تم اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اس سے

امید بھی رکھو، وہ ضرور تمہاری خواہشیں اور ضرورتیں پوری کرے گا، کیونکہ وہ بڑی غیرت والا اور حیم و کریم آقا ہے، اپنے سائل کو خالی ہاتھ پھیرنے سے شرم آتی ہے، وہ رحمٰن و رحیم ہے، اپنے بندوں اور بندیوں کو مایوس نہیں کرتا، جو کچھ تم مانگو گی وہ ضرور دے گا، مگر چونکہ وہ حکیم و علیم اور با اختیار حاکم ہے، اس لیے اگر درخواست نامناسب ہوگی تو پوری نہ کی جائے گی۔ یہ بھی اس کی مہربانی ہے، کسی آنے والی بلا کوٹاں دینا بھی ایک انعام ہے، وہ جانتا ہے اور تھیس خبر نہیں، دعا کر کے نا امید ہو جانا کفرانِ نعمت ہے، تھیس کیا خبر کہ کیا آفت آنے والی تھی، جو دعا سے مل گئی۔ اللہ کی رضا پر راضی رہو، یاد رہے، اگر تھیس اس نے دعا کی توفیق دی ہے تو بس وہ قبول ہو کے رہے گی اور دعا کی توفیق ملتا بھی اس کا بڑا احسان ہے۔

مصیبتوں کا علاج دعائیں ہے

یہ وقت بہت ہی خطرناک ہے، جو دن چھن اور امن سے گزر جائے اس کو غنیمت سمجھو، قرب قیامت ہے، امن و امان کے دن رخصت ہو چکے ہیں، اب یکے بعد دیگرے مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور جو مصیبتوں تم اٹھا چکی ہو، یہ آنے والی مصیبتوں کے آگے پیچھے ہوں گی، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَا فِي الْأُمُورِ كُلَّهَا وَاجْرُنَا مِنْ

بِخَرْزِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ

ترجمہ: اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام بہتر فرماء، اور دنیا کی رسائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرماء۔

ان مصیبتوں کے دفعیہ کی کوئی صورت نہیں سوائے دعا کے، اب میں تمھیں ایسی صورت بتاتی ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گی تو انشاء اللہ ہر خطرہ سے محفوظ رہو گی، ہر بلا سے دور رہو گی، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، وہ صورت یہ ہے کہ تم اس کی پابندی کر لو کہ پانچوں وقت کی نمازوں کے بعد اور خاص کر فرض کے بعد اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلا کے ہر برائی سے پناہ مانگو اور ہر بھلائی کی اتجا کرو، دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ دعا کرنے والا ہلاک اور برباد نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، تو بتاؤ کہ جب کریم آقا وعدہ فرمارتا ہے کہ میں دوں گا تو کیا سائل کو خالی پھیر دے گا، ہے تم کو ایسا گمان، پھر حدیث شریف میں ہے کہ نہیں ثالثی قضا کو کوئی چیز مگر صدقہ اور نہیں دوز کرتی بلکہ کوئی چیز مگر دعا۔

دعا کے برکات اور اس کے ثمرات

تم دنیا کے سارے کام کرتی ہو اور دن بھر دنیا کے دھن دے میں لگی رہتی ہو، محنت کرتی ہو، تھکتی ہو، اگر تھوڑا وقت اس کے لیے

نکال لو تو تمھیں دنیا و آخرت کا فائدہ حاصل ہو جائے گا، اور تم اللہ کے ذمہ ہو جاؤ گی اور وہ تمھارے کاموں کا کفیل ہو جائے گا، ان ہی دعاوں کی برکت سے مجھے وہ حاصل ہوا ہے کہ میرا دل جانتا ہے، میں اس منعم حقیقی کا شکر یہ کس زبان سے ادا کروں۔

میں کس قابل تھی اے لوگو جہاں میں

مگر سب کچھ دیا اس نے بلا کے

دعا وہ کھیتی ہے کہ جس پر مخالف ہوا کا گز نہیں، دعا وہ باغ ہے

جس کا ہر پھل شیر یہ اور لذیذ ہے اور ہر مرض کے لیے شفا بخش ہے
مگر دعا کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ حق تعالیٰ سے مانگ کر حسن ظن رکھو، یہ سمجھ لو کہ ملے گا ضرور، اتنے بڑے دربار سے، ایسے کریم کے در سے خالی نہیں پھر سکتی اور دیر ہونے پر گھبرا کے دعا کرنا نہ چھوڑ و جب ایسا حسن ظن رکھو گی تو ضرور پاؤ گی۔

اب میں تم کو کچھ روز مرہ کے وظائف بتاتی ہوں، جن کو تم

عقیدہ کے ساتھ پڑھو گی تو انشاء اللہ دنیا و آخرت کا فائدہ اٹھاؤ گی اور تمھاری ہر مشکل آسان ہو گی اور ہر مصیبت دور ہو گی۔

بَابُ نِعْمٍ

مَعْوَلَاتٍ

صَحْ وَشَامُ كَا وَظِيفَةٍ

صح وشام ایک تسبیح سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
 الْعَظِيْمِ پڑھ لیا کرو، یہ مبارک وظیفہ ہے، اگر تم دونوں وقت اس کی
 پابندی کر لوگی تو بڑے درجے تم کو ملیں گے۔ حدیث شریف میں ہے
 کہ یہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر لکھے مگر ترازو پر بہت
 بھاری ہیں اور ایک ایک تسبیح استغفار اور درود شریف کی بھی پڑھ لیا کرو
 تاکہ دن میں اگر تم سے کوئی خطاء ہو جائے تو وہ استغفار کی وجہ سے
 معاف ہو جائے۔

پانچوں نمازوں کے بعد پڑھنے کی سورتیں

کلام پاک کی کچھ سورتیں بھی یاد کرو، اگر تم میں کچھ ہمت ہو تو
 پانچ سورتیں یاد کرو کہ صح، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کو پڑھ لیا کرو، وہ

پانچ سورتیں یہ ہیں:- سورہ یسین، سورہ فتح، سورہ نبا، سورہ واقعہ، اور سورہ ملک۔ اگر تم پانچ نہ یاد کر سکو، یا یاد تو کرو، لیکن پڑھنے کے موقع نہ ملیں تو سورہ یسین، سورہ واقعہ، اور سورہ ملک تو ضرور یاد کرو، سورہ یسین کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی مشکل آسان کرے گا، سورہ واقعہ سے آخرت کا بھی فائدہ اور دنیا کا یہ فائدہ ہے کہ اس کی برکت سے کبھی فاقہ نہ ہوگا اور سورہ ملک قبر میں مولیں ہوگی، عذاب قبر نہ ہوگا، مجھے امید ہے کہ میرے لکھنے پر توجہ کرو گی، کیونکہ میں تمہارے ہی فائدہ کے لیے لکھ رہی ہوں، اگر توجہ کرو گی تو دنیا و آخرت کی دولت سمیٹ لوگی۔ اور ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہوگی۔

حزب الاعظم کا اور و

بہتر یہ ہے کہ حزب الاعظم روز پڑھ لیا کرو، سات منزل ہیں۔ سپتیمبر سے شروع کرو، جمعہ کو ختم کرو، یوں برابر پڑھتی رہو، یہ وہ نعمت ہے کہ سال میں ایک مرتبہ بلکہ زندگی میں بھی ایک مرتبہ پڑھ لوگی تو بھی فائدہ سے محروم نہ رہوگی، اگر باسند پڑھو تو بہتر ہے، ورنہ مجبوری ہے، پڑھو ضرور، حاشیہ پر نظر کر لیا کرو، اس کی ترکیب ضرور ہوگی، مترجم ہو تو بہتر ہے کہ ترجمہ بھی دیکھتی جاؤ۔

اگر تم کہتی ہو کہ ہمیں دعا کرنا نہیں آتا تو اس سے بہتر کیا دعا

ہو سکتی ہے، یہ بات ضرور کہوں گی، اگرچہ تصحیح کژوی لگے، اگر اسکوں کی تعلیم یافتہ کو دیکھو گی تو اس کی ہر ادا پر شک کرو گی اور اس سے بڑھنے کی کوشش کرو گی، چاہے تمہارے امکان میں ہو یا نہ ہو، محنت کر کے وہ خوبیاں حاصل کر لو گی، اور اگر رابعہ بصیرتی کو دیکھو گی تو تعریف کرو گی، مگر نہ تصحیح رشک آئے گا نہ ان کی تقلید کرو گی، محنت اور کوشش کا کیا ذکر، یہ وقت کی خرابی اور ایمان کی کمزوری ہے۔

تبیح فاطمہ اور درود شریف

نماز وقت پر پڑھو اور اٹھیناں سے پڑھو اور رکوع و سجود میں غلطی نہ کرو اور نہ جلدی کرو، اور نماز کے بعد پڑھ و نظیفہ بھی پڑھا کرو، اور درود شریف اور تبیح وغیرہ اور استغفار اور کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کم از کم تبیح وغیرہ پڑھ لیا کرو، رات کو بستر پر لیٹ کر سبحان اللہ ۳۳ بار، الحمد لله ۳۳ بار، اللہ اکبر ۳۲ بار پڑھ لیا کرو، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تبیح ہے۔ جب آپ نے اپنے والد رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کی کہ چکی پیتے پیتے میرے ہاتھ گھس گئے، ایک باندی مل جائے تو بہتر ہے، آپ نے اپنی لخت جگر سے فرمایا، اے فاطمہ! میں تصحیح ایسی چیز نہ بتاؤں جو باندی سے بد رجہا بہتر ہو، اس وقت یہ تبیح ارشاد فرمائی۔ اس وقت یہ تبیح بہت مفید ہے۔ یہ وقت

ہر مسلمان کے لیے بہت سخت ہے، نہ فوکر ملتا ہے اور نہ تم رکھ سکتی ہو۔

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأَمْوَارِ كُلُّهَا وَاجْرُنَا مِنْ
خِزْرِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ

اللَّهُمَّ إِنَا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاغْفِفْ عَنِّي

سات آیات کریمهہ کا اورد

صحیح و شام یہ سات آیات کریمہ پڑھنے سے کوئی مصیبت نہیں
پہنچتی، تسمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ کیا مصیبت آئے والی تھی جوڑلگئی۔

(۱) قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ
مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ (سورہ قوہ: ۵۱)

(۲) وَإِنْ يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِسَخِيرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ
يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ

الرّحِيمُ ۝ (سورہ زمر: ۱۰۷)

(۳) وَمَا مِنْ ذَبَابٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوَدَّعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ

مُبِينٍ ۝ (سورہ ہود: ۶)

- (٢) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ
مَا مِنْ دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ أَحْدَادُنَا صَيَّبَهَا إِنَّ رَبَّي عَلَى
صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ٥ (سورة هود: ٥٦)
- (٤) وَكَائِنُ مِنْ دَآبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ
يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥ (سورة طه: ٣٤)
- (٦) مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا
مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ
بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٥ (سورة غافر: ٢)
- (٧) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يُتَمَّ مَائِذْ عُوْنَ
مِنْ ذُوْنَ اللَّهِ إِنَّ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ
كَشِفَتْ ضُرَّهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
مُمْسِكُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ
يَتَوَكَّلُ كُلُونَ ٥ (سورة زمر: ٣٨)



مناجاتیں

مایوس مت ہو اے دل دستِ دعا اٹھا کر
 پھیرے گا وہ نہ خالی در سے تجھے بلا کر

مایوس تو مجھ کونہ کر مشہور ہے تیرا کرم
 اے بادشاہ دو جہاں مجھ پر بھی کر فضل و کرم
 ہو کر تری جاؤں کہاں کس سے کہوں یہ دروغ
 تجھ سے مری فریاد ہے اے بیکسوں کے دادرس
 مجھ کونہ کر دنیا میں تو اب بتلائے رنج و غم
 تیری صفت رحمٰن ہے اور ہے صفت تیری رحیم
 ضائع نہیں کرتا ہے تو محنت کسی کی بیش و کم
 اپنے کام پاک میں لا تَقْنَطُوا تونے کہا
 کیوں کرنہ تیرے قول پر یارب رہوں ثابت قدم
 آکر تیرے دربار میں کہتی ہوں روکر اے کریم
 مایوس تو مجھ کونہ کر مشہور ہے تیرا کرم
 یہ سر سر دربار ہے اے مالک مختار تو
 چاہے کرے لطف و کرم چاہے کرے یہ سر قلم
 تیرا ہی یہ دربار ہے آتے ہیں سب شاہ دگدا
 پھرتا نہیں خالی کوئی کرتا ہے تو سب پر کرم
 ذرہ کو گر چاہے تو ہی پل میں کرے رشک قمر
 تیری صفت یہ دیکھ کر کیوں حوصلہ ہو میرا کرم
 تو قادرِ ذی شان ہے شہرت ہے تیرے فضل کی
 بہتر نہ اب غمگین ہو، اس پر بھی ہو تیرا کرم

جو مانگا ہے جو مانگیں گے خدا سے ہم وہی لیں گے

جو مانگا ہے جو مانگیں گے خدا سے ہم وہی لیں گے
مچل جائیں گے روئیں گے کہیں گے ہم بھی لیں گے

نہیں دشوار کچھ تجھ کو جو تو چاہے ابھی دیدے
کہ ہم محتاج تیرے ہیں تو جودے گا وہی لیں گے

ترا فضل و کرم تیری عنایت دیکھ کر اس دم
رہیں گے پھرنا ہم چپ یوں کہیں گے ہم ابھی لیں گے

نہیں گو ہم کسی قابل مگر تیری عنایت ہے
جو تری شان کے لائق ہے ہم تجھ سے وہی لیں گے

کیا تو نے طلب ہم کو انھیں گے ہم نہ اس در سے
نہ جائیں گے نہ جائیں گے ابھی لیں گے وہی لیں گے

ارے بہتر نہ تو گھبرا جو مانگے گی وہ پائے گی
کہے گی جب تو یہ روکر کہ ہم اس دم بھی لیں گے

خوشی کے دن ہوں خوشی کی راتیں

اللّٰہ اب ہوتی عنایت، خوشی کے دن ہوں خوشی کی راتیں
 یہ دور ہواب غم کی حالت، خوشی کے دن ہوں خوشی کی راتیں

جہاں کے غم سے یہ دل مٹا ہے خیال کر کے کہ سب فنا ہے
 اللّٰہ دل کو تو ہی دے راحت، خوشی کے دن ہوں خوشی کی راتیں

مٹا دے یار ب یہ غم کی صورت اٹھاؤں کیونکر نہیں ہے طاقت
 خوشی میں گزرے ہر ایک ساعت، خوشی کے دن ہوں خوشی کی راتیں

یہ میری اولاد بہرہ ور ہو، دعا یہ میری جو پُر اثر ہو
 رہے جہاں میں سدا یہ راحت، خوشی کے دن ہوں خوشی کی راتیں

یہ باغ عالم میں وہ شجر ہوں سدا جو سر سبز باشیر ہوں،
 اگر ہو مجھ پر بھی یہ عنایت، خوشی کے دن ہوں خوشی کی راتیں

تو ہی تو ایک سے کرے ہزاروں، ہزار سے کردے چاہے لاکھوں
 ہے تیری قدرت ہے تیری عادت، خوشی کے دن ہوں خوشی کی راتیں

اگر جہاں میں یہ دل حزیں ہے یہ بات بہتر کے دل نہیں ہے
 ابھی ہو تیری اگر عنایت، خوشی کے دن ہوں خوشی کی راتیں

مقبول سب فریاد کر، یارب مری فریاد سن
 مشکل کشا حاجت روا، یارب مری فریاد سن
 تیرے ہی درکی ہوں گدا، یارب مری فریاد سن
 چپکے کہے یا زور سے یعنی کہے جس طور سے
 سنتا ہے سب کی غور سے، یارب مری فریاد سن
 حاضر ہی ہوں روز و شب کرتی رہی ہوں میں طلب
 کیوں دیر کی، کیا ہے سب، یارب مری فریاد سن
 آکر صدا دربار میں دیتی رہی، ہر بار میں
 پھر کیوں رہوں محروم میں، یارب مری فریاد سن
 پھیلاوں جب دست دعا آگے ترے رب العلی
 بھر دے تو یہ کاسہ مرا، یارب مری فریاد سن
 درکی ہوں میں سائل تری قدرت کی ہوں قائل تری
 مطلب ہوں سب حاصل مرے، یارب مری فریاد سن
 جو جو کیا میں نے طلب مل جائے مجھ کو آج سب
 ہوں دور سب رنج و تعب، یارب مری فریاد سن
 مجھ کو نہ تو بر باد کر بہتر کو تو اب شاد کر
 مقبول سب فریاد کر، یارب مری فریاد سن

سن لے مغموم دلوں کی بھی دعائیں سن لے

اے نہ رے ربِ دلِ مضطركی دعائیں سن لے
 حال زارِ دل بیکل جو سنائیں سن لے
 قید ہیں جاں میں فکروں کے مثالی طائر
 بے قراری میں نکلتی ہیں دعائیں سن لے
 دیکھ لے، دیکھ لے، ہاں دیکھ لے حالتِ میری
 سن لے مغموم دلوں کی بھی صدائیں سن لے
 یا الہی تجھے تیرے ہی کرم کا صدقہ
 کر نہ مایوس مجھے میری دعائیں سن لے
 ہیں خزانے ترے معمور تو پھر دری ہے کیا
 مانگنے والے کبھی خالی نہ جائیں سن لے
 جو طلب میں نے کیا خاص عنایت سے دیا
 تیرے قربانِ میری یہ بھی دعائیں سن لے
 یہ مناجات کہی کہہ کے سنائی سب کو
 واد اس کی ترے دربار سے پائیں سن لے
 آج تنیم پ ہو تیرے کرم کی بارش
 آج ناکام تیرے در سے نہ جائیں سن لے
 (امۃ اللہ تنیم)

اللهِ لَا تُعَذِّبْنِي

مولانا محمد ثانی حنفی

خداوند امیں سرتا پاخطا پاتا ہوں اسیر بخجہ حرص و ہوا ہوں
فقیر و خاکسار و بے نوا ہوں برا ہوں پرترے در کا گدا ہوں

إِلَهِي لَا تُعَذِّبْنِي فَإِنِّي
مُقْرِّبٌ إِلَيْكَ الَّذِي قَدْ كَانَ مِنِّي

اللهِ تو رحیم ہے کساں ہے اللهِ تو تیری رحمت بے کراں ہے
اللهِ تو ہی خلائقِ جہاں ہے اللهِ تو تمحص پر صدقہ دل و جاں ہے

إِلَهِي لَا تُعَذِّبْنِي فَإِنِّي
مُقْرِّبٌ إِلَيْكَ الَّذِي قَدْ كَانَ مِنِّي

اسیرِ دام ہوں جرم و خطماں کا ہے کیا کہنا ترے لطف و عطا کا
اللهِ عَبْدُكَ الْعَاصِي أَتَأَكَّا مُقْرِّبٌ إِلَيْكَ الذُّنُوبِ قَدْ دَعَا كَمَا

إِلَهِي لَا تُعَذِّبْنِي فَإِنِّي
مُقْرِّبٌ إِلَيْكَ الَّذِي قَدْ كَانَ مِنِّي

اللَّهُمَّ مَحْشَهُ پَرِ رَحْمَتِكَ مَرَے عَبْدُكَ مَرَے يَارَبِ دُرْگَزَكَ
شَبَّ تَارِيَكَ دَلَّ مَیں تو سَحْرَكَ كَرَمَ گَسْتَرَهُ ہے تو اور بَنَدَهُ پَرَورَ

إِلَهٰي لَا تُعَذِّبْنِي فَإِنِّي
مُقْرِبٌ إِلَيْكَ الَّذِي قَدْ كَانَ مِنِّي

سو اتیرے نہیں ہے کوئی میرا مری جاں بھی ہے تیری، دل بھی تیرا
سیہ بختی نے آکے دل کو گھیرا ہے اف سایہ گناہوں کا گھنیرا

إِلَهٰي لَا تُعَذِّبْنِي فَإِنِّي
مُقْرِبٌ إِلَيْكَ الَّذِي قَدْ كَانَ مِنِّي

بِقَاتِيجِ کو ہے حاصل میں ہوں فانی ترے قبضے میں میری زندگانی
نلامت سے ہوں یارب پانی پانی خدا یا میں ترا بندہ ہوں ثانی

إِلَهٰي لَا تُعَذِّبْنِي فَإِنِّي
مُقْرِبٌ إِلَيْكَ الَّذِي قَدْ كَانَ مِنِّي

ہیں محتاج تیرے گدا اور شاہ

خداوند قدوس و عالم پناہ

تری سلطنت تیرے ملک و سپاہ

تو مالک الملک و دیم القیس تجھی کو ہے زیباجلال اور جاہ
 تو اللہ و رحمٰن و ولی رحیم بڑی محترم ہے تری بارگاہ
 الہی تو ہے صاحبِ کن فکاں ترے اک اشارہ پے عالم تباہ
 ترے در کے سائلِ نبی و ولی ہیں محتاج تیرے گدا اور شاہ
 جسے چاہے پہنائے عنزت کا تاج جسے چاہے دکھائے ذلت کی راہ
 جسے چاہے دے رزق تو بے حساب جسے بھوک سے چاہے کر دے تباہ
 تری نعمتوں کا ہے گناہ حال ہے عاجز دماغ اور قاصر نگاہ
 یہ جنگل بیاباں یہ کوہ و دمک پہاڑ اور صحراء یہ آب و گیاہ
 چیند و پرند اور جن و بشر ترے ملک میں ہر سپید و سیاہ
 چمن کے گل و لالہ و نسترن زمیں آسمان اور یہ مہر و ماہ
 یہ شرق اور غرب و شمال و جنوب ہے ہر سمت و ہر جا تری جلوہ گاہ

ہمالہ کی چوٹی پہ تیری نظر سمندر میں مولیٰ پہ تیری نگاہ
 ہدایت ضلالت ترے ہاتھ میں تو گراہ کریا دکھا نیک راہ
 ہے تیرے ہی بضمہ میں موت و حیات تیرے آگے مجبور ہیں کج کلاہ
 تری رحمتوں کی نہیں ابھا عذاب و غضب وہ کہ تیری پناہ
 ترے ذکر میں اور تری یاد میں ہے پوشیدہ تسکین قلب و نگاہ
 نہیں کوئی معبد تیرے سوا زبان بھی مقرر اور دل بھی گواہ
 یہ نغمے قبسم ہنسی قہقہے چھپا دل کاغم زبان کی کراہ
 تو سنتا ہے اور عالم الغیب ہے تو سب کا لک تو سب کا لک
 کرم کر الہی مرے حال پر سرایا خطا ہوں مجسم گناہ
 سن اے میرے مالک سمع و بصیر کہا بلب پ آئی مرے دل کی آہ
 غصب مجھ پہ نازل نہ کر تو کبھی کہ اس کا تصور ہی ہے جانکاہ
 کرم کر الہی کرم کر کرم کہ ہے عام تیرا کرم گہہ بگاہ
 مجھے دنون عالم میں کر سرخو نہ ہوں یاں ذلیل اور شوال رو سیاہ
 میں ٹھائی ترا بندہ کمتریں
 ہوں رکھتا تری رحمتوں پر نگاہ

(مولانا محمد ثانی حسنی)

السلام اے بے کسون کے غم گسار

آرہی ہے یاد مجھ کو بار بار

گلشن طبیبہ کی صبح مشکلار

بزر گنبد کا جمال دل فروز وہ کلس کا حسن دلش نور بار
 روضہ جنت وہ محراب النبی سر بسجده ہونے والوں کی قطار
 حاضری آقا کے در خدام کی سر بسجھا کئے، دل کو تھامے، اشکبار
 روضہ اطہر پہ ہر دم صبح و شام وہ سلاموں کی بہار اندر بہار
 کاش مجھ میں طاقت پرواز ہو اڑ کے پہنچوں اپنے آقا کے دیار
 چھوڑ دو اپنے دل بے تاب کو جب قریب آئے مدینہ کا حصہ
 میں چلوں چل کر تمہوں کھنم کر چلوں نعت پڑھتا جھومتا متانہ وار
 روضہ اقدس پہ ہو جب حاضری ہوں نگاہیں پست و آنکھیں اشکبار
 تھام کر پردے جیگر خاص کے میں کروں عرض اے حبیب کر دگار
 السلام اے رحمۃ للعالمین السلام اے مرسل پروردگار
 السلام اے راحت قلب و نظر السلام اے وجہ تسکین و قرار
 السلام اے محسن انسانیت السلام اے بے کسون کے غم گسار
 حاضری کے گرچہ میں لاائق نہیں ہوں ذلیل و کم نظر، بے اعتبار

ہے مگر اک خاص نسبت آپ سے ہوں غلام بے نوا و خاکسار
 آپ کی الفت میں، میں دیوانہ ہوں آپ ہی کا عشق کا ہوں بادہ خوار
 آپ ہیں میری نگاہِ مست میں آفتابِ شوق و جان انتظار
 آپ کے در پر جو میں حاضر ہوا مل گئی مجھ کو حیاتِ نوبہار
 خوبیِ قسمت پر مجھ کو ناز ہے ہم کلامی کا طا جو مجھ کو افتخار
 خوب دل بھر کے سناوں حالِ دل حرمتیں دل کی نکالوں بار بار
 بارشِ عرقِ ندامت اس طرف اُس طرف ہونور و رحمت کی پھوار
 اس طرف ہو عشق و متی درد و سوز اس طرف ہوا ک تبسم نوبہار
 دیر تک کہتا رہوں روتا رہوں کم نہ ہوں آخر تک، اشکوں کے تار
 آبلہ پا آپ کی گلیوں میں پھر کر کے اپنے جیب و دامن تار تار
 نام لے لے کر خدا کا میں پھروں رات، دن شام و سحر دیوانہ وار
 آپ کے قدموں پر میں دم توڑ دوں جان دے دوں آپ پر پروانہ وار
 ایک گوشہ میں بقیع پاک کے خاک کا پیوند ہوں زیرِ جدار
 پھر نصیباً جاگ جائے گا مرا ہو گا میرا خوش نصیبوں میں شمار
 ہاں اسی صورت میں پھر آجائے گا
 عمر بھر کی بے قراری کو قرار

(مولانا محمد ثانی حسنی)